

## کارکنانِ تبلیغ کے لیے

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی مفید باتیں

اور اہم ہدایات

﴿افادات﴾

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا نذر حلوی رحمۃ اللہ علیہ

انتخاب و ترتیب

محمد زید مظاہری ندوی

استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

ناشر

ادارہ افادات اشرفیہ دو بگاہر دوئی روڈ، لکھنؤ

## تفصیلات

نام کتاب ..... کارکنانِ تبلیغ کے لیے مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی	..... مفید باتیں اور اہم ہدایات
افادات ..... حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا ندھلویؒ	..... انتخاب و ترتیب ..... محمد زید مظاہری ندوی
سن اشاعت ..... ۱۴۳۶ھ	..... ۲۳۶ صفحات
..... ۱۶۰ روپے	..... قیمت

### ملنے کے پتے

- ☆ دیوبند و سہارنپور کے تمام کتب خانے
- ☆ افادات اشرفیہ دو بگاہر دوئی روڈ لکھنؤ
- ☆ مکتبہ ندویۃ، ندوۃ العلماء لکھنؤ
- ☆ مکتبہ رحمانیہ ہتورا، باندا، پن کوڈ: ۲۱۰۰۱
- ☆ مکتبہ الفرقان نظیر آباد لکھنؤ
- ☆ مکتبہ اشرفیہ ۳۶، محمد علی روڈ بمبئی ۹

## فہرست مضمون

صفحہ

عنوان

۱۳	مرتب کتاب کی درمندانہ گزارش
۱۹	علمائے کرام سے عاجزانہ گزارش
۲۵	کلمات تشکر و تحدیث نعمت
۳۱	تصدیق و تائید حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب مظاہری مدظلہ
۳۳	تصدیق و تائید حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعماںی مدظلہ
۳۷	تصدیق و تائید حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب الاعظمی ندوی مدظلہ
۴۲	تقریظ و تائید حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم
۴۳	ارشاد گرامی محدث عصر حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتہم
۴۴	مقدمة الکتاب از مرتب

## باب (۱)

۶۶	حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے مکاتیب و ارشادات کی اہمیت تبیغی امور سے متعلق مشورہ کے ذریعہ مشکلات کا حل اور سوالات
۶۷	کے جوابات دینے کا خاص اہتمام
۶۸	حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے ملفوظات و ارشادات اور آپ کے مشوروں و مدداؤں کی اہمیت علماء و اکابرین کی نظر میں
۶۹	حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے تبلیغی ارشادات کی اہمیت خود آپ کی زنگاہوں میں
۷۰	مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے اخیر عمر کے ملفوظات و ارشادات کی اہمیت

## باب (۲)

تبلیغی ذمہ داروں اور امیروں کے لیے  
حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی اہم ہدایات

- |    |   |
|----|---|
| ۷۲ | اپنے کو بڑوں کے مشورہ کا پابند رکھئے اور امت کے بڑوں پر اعتماد کیجئے          |
| ۷۲ | علماء کی نگرانی اور تنبیہ کی ضرورت کا احساس                                   |
| ۷۳ | میرے اعمال کی نگرانی کرو، میں غلطی کروں تو مجھے ٹوکو!                         |
| ۷۳ | میرے احوال پر نظر رکھئے اور ٹوکنے کی بات پر ٹوکنے!                            |
| ۷۵ | وقت کے مشائخ اور بزرگوں سے نیازمندانہ تعلق رکھنے کا فائدہ                     |
| ۷۵ | علماء و مشائخ کی قدر دانی اور احسان شناسی                                     |
| ۷۶ | شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ کی قربانی کی قدر دانی اور ان کی تصانیف کی اہمیت |
| ۷۷ | سارے کام کے ساتھ اپنی فکر اور اپنے اوپر خطرہ                                  |
| ۷۷ | اپنی تہی دستی اور بے بُناعیتی کا یقین، ہی کامیابی ہے                          |
| ۷۸ | دعوے کا کلمہ نکل جانے سے توبہ واستغفار  |
| ۷۸ | حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی کسر نفسی و تواضع اور اپنی فکر                 |
| ۷۸ | اللہ والوں کے سوچنے کا انداز  |
| ۷۹ | تمام تبلیغی کام کرنے والوں اور ذمہ داروں کو مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی نصیحت  |

## باب (۳)

ہماری تبلیغی تحریک کا مقصد پورے دین کو زندہ کرنا ہے

جماعتوں کی نقل و حرکت تو کام کی ابتداء ہے مقاصد کی تکمیل کی شدید ضرورت ۸۱  
تبلیغی چلت پھرت صرف طلب دین پیدا کرنے کا ذریعہ ہے

۸۲ آگے تعلیم و تربیت علماء کا کام ہے

تبلیغ کا اصل مقصد یہ ہے کہ صنعت و حرف، زراعت و تجارت

۸۳ اور زندگی کے ہر شعبے کے احکام زندہ ہو جائیں

دعویٰ و تبلیغی محنت دین کے تمام شعبوں و اداروں کے لئے بمنزلہ وسیلہ کے

۸۵ اور تمام مقاصد کی تکمیل کا موثر ذریعہ ہے

۸۵ اصل تبلیغ صرف دوامر کی ہے، احکام شرعیہ کی تبلیغ کرنا اور جذبات کا دینی بنا

۸۷ تعلیم و تعلم کی لائے سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے ذہن میں ایک خاکہ

۸۸ احکام و مسائل کی اہمیت

۸۸ مسائل کے بغیر اعمال اور اعمال کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا

۸۹ فضائل مسائل کا زینہ ہیں، ضرورت دونوں کی ہے

۸۹ فضائل بمنزلہ وسائل اور مسائل بمنزلہ مقاصد کے ہیں

۸۹ مسائل کی تبلیغ اور اصلاح رسومات بھی ہمارے کام کی ترتیب میں شامل ہے

۸۹ اس کی کوشش کیجئے کہ ہمارے کاروبار، قوم کی پنچا بیتیں اور فیصلے نکاح وغیرہ

۹۰ سب شرع کے موافق ہوں

۹۰ مسائل اور احکام شرعیہ کی بے قسمی سے ایمان جاتا رہتا ہے

تبلیغی احباب اب شرع کے مطابق میراث کاررواج دینے کی کوشش کریں

۹۲ اور اس کی تبلیغ کریں

تبلیغی احباب اب یہ کام بھی کریں کہ ان کے باہمی نزاعات و مقدمات

۹۲ شرع کے مطابق اسلامی عدالت سے حل کئے جائیں

- اتحاد قائم کرنے کے لئے مختلف تنظیموں، تحریکوں اور خاندانوں میں  
مصالحت بھی کرائیے 93
- ان جڑوں کو مضبوط کیجئے 95
- داعی کے نصابِ تعلیم کا اہم جزء تجوید کے ساتھ قرآن شریف سیکھنا بھی ہے 96
- ہر داعی و مبلغ کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے 97
- جهاں ابتدائی تبلیغ ہو چکی ہو وہاں مکتب کی دعوت شروع کر دیجئے 99
- قرآن پاک کی تعلیم کے لئے گاؤں گاؤں مکتب قائم کرو علم کی اشاعت کرو 100
- قرآن پاک کے حقوق 101
- قرآن پاک کو رہبر بنانے اور مفید مرافقے کی تعلیم 102
- قرآن پاک کی اہمیت اور اس کے حقوق 103
- مدارس قائم کیجئے، خانقاہیں آباد کیجئے! 105
- رسول اللہ ﷺ نے صدیق اکبر<sup>ؑ</sup> کو دعا تعلیم فرمائی یہ بھی نبیوں والا کام ہے 106
- کلمہ اور نماز کسی اپنے قاری سے درست کرو 107
- اپنی نمازوں کو درست کیجئے سیکھئے سنت کے مطابق کیجئے 109
- خانقاہ اور بیعت کے تعلق سے تبلیغی کام کرنے والوں کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کی اہم ہدایت 111
- ہمارے اس کام کا اصل مقصد 112
- اب تحریر و تصنیف کے ذریعہ دین کے جملہ احکام کی دعوت دی جائے 113
- حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کی تجویز اور خواہش 116
- تبلیغ میں تقریر و تحریر کی بھی ضرورت 117
- اللہ ایسی تقریروں سے اور ایسے جلسوں سے امت کی حفاظت فرمائے 119

- ۱۲۰ تقریر کے ساتھ عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت
- ۱۲۱ کلکٹر صاحب و کمشنر صاحب کو داعی بننے کی تلقین
- ۱۲۲ کافروں کے حقوق کو پہچاننے اور ادا کرنے کی فکر و دعاء
- ۱۲۳ ضرورت کے وقت کافروں سے بھی ملو اور ان کی خدمت کرو
- ۱۲۴ چھ نمبر میں اس کو بھی شامل کرو
- ۱۲۵ کافروں کو اسلام میں داخل کرنے کی بھی تدبیر کیجئے
- ۱۲۶ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ سے متعلق مولانا محمد الیاس صاحب کا جذبہ
- ۱۲۷ اس کام کے ذریعہ غیر مسلموں کے اسلام میں داخل ہونے کی توقع و تمنا
- ۱۲۸ جہاں تبلیغی کام مضبوط ہو گیا ہو وہاں ان کا مous کا اضافہ کر دیجئے
- ۱۲۹ غیر مسلموں میں بھی تبلیغ کا اہتمام کیجئے
- ۱۳۰ یورپیں قوم کو اسلام کی دعوت دینے کی فکر و ضرورت
- ۱۳۱ یورپیں قوم کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے؟
- ۱۳۲ اسلام کا صحیح تعارف اور غیروں کے شکوہ و شبہات دور کرنے
- ۱۳۳ اور اسلامی تعلیم کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کرنے کی ضرورت
- ۱۳۴ سیاسی کام کرنے والے بھی قابل قدر و قبل شکر ہیں
- ۱۳۵ دین کی اور امت کی حفاظت کے لیے سیاست و حکومت میں بھی حصہ لینا
- ۱۳۶ ہماری ترتیب میں شامل ہے
- ۱۳۷ حکام و اہل سیاست کی اصلاح اور ان کو تبلیغ کرنے کا طریقہ
- ۱۳۸ ہم حکومت اور اقتدار سے کیوں محروم کر دیئے گئے؟
- ۱۳۹ دعوت و تبلیغ کے دو طریقے اور ہماری تحریک کا خلاصہ
- ۱۴۰ اسلام حکومت سے نہیں حسن اخلاق سے پھیلا ہے

## باب (۲)

### احکام و مسائل کی تبلیغ اور ان کی اہمیت

- ۱۳۶ ایمان کے ساتھ علم کا رشتہ، قبول ایمان کے بعد پہلا مرحلہ طلب علم
- ۱۳۹ احکام و مسائل کی اہمیت
- ۱۴۰ احکام و مسائل اور فتاویٰ کی اہمیت و ضرورت
- ۱۴۰ اصل دین احکام و مسائل ہی ہیں
- ۱۴۲ کامل دین کی حقیقت
- ۱۴۳ احکام و مسائل کی تبلیغ کی فکر
- ۱۴۳ احکام دین سکھانے کے لیے جماعتوں کی روائی
- ۱۴۷ علم کے تعلق سے تبلیغی کام کرنے والوں کو اہم نصیحت
- ۱۴۸ دینی تعلیم کی اہمیت اور مدارس اسلامیہ کی ضرورت
- ۱۴۹ طلب علم کی دعوت بھی ضروری ہے، علم ملے گا بزرگوں کی صحبت سے نکلنے کا مقصد، مسائل سیکھنے کے بعد ان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجئے
- ۱۵۰ علوم شرعیہ کی تحصیل و تکمیل مدارس و خانقاہوں کے ذریعہ ہوگی
- ۱۵۱ دعوت و تبلیغ مدارس و خانقاہ کے لیے بمنزلہ وسیلہ اور بنیاد کے ہے
- ۱۵۳ علوم سیکھنے کی ترتیب اور نصاب کا خاکہ
- ۱۵۵ اصحاب تبلیغ کے لیے مختصر نظام اعمال اور نظام الوقت
- ۱۵۵ کچھ وقت احکام شرعیہ، مسائل فقہیہ کے سیکھنے میں خرچ کیجئے
- ۱۵۵ جاہل کو عالم کے پاس جانا فرض ہے، احکام و مسائل سیکھنا بھی فرض ہے

- تبلیغ و تعلیم کا ایک فرق
- ۱۵۶
- درسون، دینی درسگا ہوں اور عام تبلیغ کا ایک واضح فرق
- ۱۵۸
- تبلیغ کہاں واجب ہے اور کہاں مستحسن؟
- ۱۶۰
- سارے تبلیغ والوں کے لیے ان کتابوں کا بار بار پڑھنا بہت ضروری ہے
- ۱۶۲
- تبلیغ میں لگنے والے حضرات ان کتابوں کو ضرور مطالعہ میں رکھیں
- ۱۶۴
- اہل تبلیغ کے لیے ایک ضروری نصاب جس کو ہر صاحب تبلیغ کو پڑھنا یا سننا چاہئے
- ۱۶۶
- تبلیغی حضرات کو کتب حدیث کی "کتاب الایمان" کی تعلیم کا اہتمام ضروری ہے
- ۱۶۷
- فضائل نماز کتاب کی اہمیت اور اس کو دیکھنے کی ترغیب
- ۱۶۸
- پورے دین کا خلاصہ
- ۱۶۹
- یہ بھی ہمارا کام ہے اس میں بھی حصہ لینا چاہئے

## باب (۵)

### مختلف دینی جلسوں کی اہمیت

- معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنا بھی ضروری اور اپنا کام ہے
- ۱۷۰
- دعوت و تبلیغ کے ساتھ دوسرے کاموں کی بھی فکر
- ۱۷۱
- حکومت کی جریयہ تعلیم کی مخالفت اور اس کا سدباب
- ۱۷۱
- دینی جلسوں اور اصلاحی پروگراموں کے کرنے کی اہمیت اور تاکید
- ۱۷۲
- جلسوں کی اہمیت اور جلسوں میں علماء کرام کی تقریر کرانے کا اہتمام
- ۱۷۳
- مالداروں کو صحیح مصرف میں اداۓ زکوٰۃ کی تاکید
- ۱۷۳
- زکوٰۃ کے موضوع پر تقریر کرانے کا اہتمام
- ۱۷۴
- ایک جلسے کے لیے دعوت نامہ

- ۱۷۳ دینی جلسہ کی کامیابی کو شش کرنے والوں کیلئے دعا اور خوشخبری  
جلسہ میں باہر سے آنے والے مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا ۱۷۵  
۱۷۶ مدارس کے طلبہ کو مختلف مساجد میں امامت کے لیے مقرر کر دیا جائے

## باب (۲)

### منکرات پر نکیر کی ضرورت و اہمیت اور اس کا طریقہ

- ۱۷۸ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں دعوت کے فرض شعبے ہیں  
۱۷۹ تمام گناہ قہر خداوندی کا دروازہ ہیں  
۱۷۹ منکرات پر نکیر کرنا گناہوں کو بند کرنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے  
۱۸۰ اس کے بغیر تمہاری تبلیغی محنت ناقدری کا شکار ہو جائے گی  
۱۸۱ اہل تبلیغ خصوصاً علماء کرام پر ضروری ہے کہ دنیا میں پھیلے ہوئے  
۱۸۱ تمام منکرات و معاصی کو ختم کرنے کی کوشش کریں  
۱۸۱ مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا ہر وقت منکر پر نکیر کرنے کا مزاج  
۱۸۲ بذریعہ خط منکر پر نکیر  
۱۸۲ منکرات پر عملی نکیر  
۱۸۳ منکرات پر نکیر کا مناسب طریقہ  
۱۸۳ خطاب خاص، خطاب عام کی تفصیل  
۱۸۴ خطاب خاص میں نرمی اور خطاب عام میں سختی  
۱۸۵ باطنی قوت کے ذریعہ بھی منکرات پر نکیر کی ضرورت  
۱۸۵ ولی اور قطب بننے کا طریقہ  
۱۸۷ تبلیغ کے خاطر قلبی و باطنی اور روحانی قوت کو حاصل کرنے کی ضرورت

## باب (۷)

### خلوت و عزلت اور حق تعالیٰ سے مناجات کی ضرورت

- ۱۸۸ ان بیاء علیہم السلام کی حالت
- ۱۸۹ تمام تبلیغ والوں کو نصیحت
- ۱۹۰ زیادہ وقت خلوت اور ذکر فکر میں گزارو  
تمام کام کرنے والوں کو بزرگوں اور مشائخ سے ربط رکھنے  
اور خلوتوں میں جا کر ذکر فکر میں لگنے کی ضرورت
- ۱۹۰ مجھے بھی خانقاہوں اور خلوتوں میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے
- ۱۹۱ اہل ذکر و اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو
- ۱۹۲ بڑوں سے ربط رکھنے کی ضرورت
- ۱۹۳ اپنے بڑوں سے یعنی علماء سے دین لو اور ان کو اپنا محسن سمجھو ان کی تعظیم و تو قیر کرو
- ۱۹۳ اہل اللہ کی محبت اور ان کی صحبت سے ایمان مضبوط ہو گا
- ۱۹۴ شیطان کے جال سے بچنا ہے تو بزرگوں کی ماتحتی اختیار کیجئے
- ۱۹۴ اولیاء و مشائخ کے پاس اللہ واسطے جانادین کا لُبُّ لُبَاب ہے
- ۱۹۵ تصوف و خانقاہ اور مشائخ کی ضرورت کیوں؟
- ۱۹۶ اصحاب دعوت و تبلیغ کے نام مختلف نصیحتوں اور ہدایتوں پر مشتمل
- ۱۹۷ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا اہم مکتوب
- ۱۹۷ تبلیغی کام کے ذریعہ دینی اداروں اور شعبوں کو مستخدم و مضبوط کرنا ضروری ہے
- ۱۹۸ مدرسوں کے قیام کی تاکید اور مدرسوں کے لیے چندہ کی اپیل

- ۱۹۹ مدارس کے چندہ اور ترقی کے لیے کوشش نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ  
ہمارے اندر دین کی طلب اور اخلاص کی کمی ہے
- ۲۰۰ مدرسہ و مکتب کی ترقی اور چندہ کیلئے جی جان توڑ کر کوشش کرنے کی ضرورت  
کوئی مسجد دینی مکتب و مدرسہ سے خالی نہ ہونا چاہئے
- ۲۰۱ چند تنبیہات پر مشتمل حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا اہم مکتوب  
صرف تعلیم اور مدرسہ کی ترقی کے لیے مستقل جلسہ کرنے کی ضرورت
- ۲۰۲ طبقاتی جوڑ کی اہمیت  
تبلیغی کارکنوں اور ایک سال لگانے والوں کے لیے پندرہ ہدایتوں پر مشتمل
- ۲۰۳ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا اہم مکتوب
- ۲۰۴ ذکر بارہ تسبیحات، بیعت اور خانقاہ سے متعلق چند ہدایتوں
- ۲۰۵ حضرت تھانوی کیلئے ایصال ثواب اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے متعلق ہدایت
- ۲۰۶ تبلیغ میں نکلنے کا مقصد تین چیزوں کو زندہ کرنا ہے، ذکر، تعلیم، تبلیغ
- ۲۰۷ ہماری تبلیغ شریعت، طریقت، حقیقت تینوں کی جامع ہے
- ۲۰۸ ”تبلیغ“، شریعت، طریقت حقیقت تینوں کو جامع ہے

## باب (۸)

### چند تنبیہات اور اہم ہدایات

- ۲۰۹ دین میں نافع اور مفید طریقوں کو اختیار کرنا چاہئے اگرچہ کسی بزرگ  
اور شیخ کے ذوق اور طریقہ کے خلاف ہو
- ۲۱۰ مبادی کو غایات اور ذرا رائع وسائل کو مقاصد کا درجہ دینا بہت بڑی غلطی ہے

- گھروں میں نوافل و عبادات کا اہتمام کرو  
۲۱۳
- اپنی مساجد کو مسجد نبوی کے طرز پر اعمال نبوت سے آباد کیجئے  
۲۱۴
- مسجد نبوی میں ہونے والے اعمال  
۲۱۶
- ایک ضروری تنبیہ  
۲۱۷
- رمضان المبارک میں نقل و حرکت کی اہمیت  
۲۲۰
- شب جمعہ میں کارکنانِ تبلیغ کا اجتماع  
۲۲۲
- نہایت ضروری تنبیہ  
۲۲۲
- عبادات کے مختلف انواع  
۲۲۳
- فلکی عبادات کی بھی فلکر کیجئے جو ستر سالہ عبادت سے بہتر ہے  
۲۲۴
- جو جس درجہ اور جس صلاحیت کا ہواں سے وہی کام لو  
۲۲۹
- اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو یہ نیت بھی کرنا چاہئے  
۲۳۰
- علماء کی زیارت و خدمت کس نیت سے کرنا چاہئے؟  
۲۳۲

# مرتب کتاب کی درودمندانہ گزارش

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على  
سيد المرسلين محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

دعوت تبلیغ کی خاص انداز پروہ محنت اور تحریک جس کا آغاز حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے کیا تھا، بلاشبہ حق تعالیٰ کی بڑی نعمت و رحمت ہے، اس کے دینی فوائد و منافع کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس گئے گزرے دور میں جب کہ باطل طاقتیں مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعہ باطل کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف ہیں اور ہم ان ذرائع وسائل سے محروم ہیں، ایسے وقت میں خاص طور پر دعوت تبلیغ کی یہ محنت ہمارے لئے بڑی قابل قدر نعمت ہے، یہ ہمارے اکابر کا ثقیلی سرمایہ اور ان کی میراث ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس سے دینی منافع حاصل کرنا ہم سب عوام و خواص کی ذمہ داری ہے، جس کی آسان اور کامیاب صورت یہی ہے کہ اس کام کے تعلق سے مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی جواہم ہدایات کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں ان سے واقف ہو جائے اور اسی کی روشنی میں اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کے وارث اور جانشین ہونے کی حیثیت سے اپنے منصی فریضہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام میں ہونے والی تمام قسم کی کوتا ہیوں، لغزشوں اور افراط و تفریط کو شفقت و ہمدردی کے ساتھ اصحاب تبلیغ کو آگاہ کرتے رہیں، الحمد للہ ہر زمانہ میں علماء حق اس کام کو انجام دیتے رہے ہیں۔

عوام الناس اور ذمہ داران تبلیغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء کرام کی ان ہدایات و اصلاحات اور تنبیہات کو نہایت توجہ کے ساتھ سنیں، پڑھیں، غور کریں اور اس کے مطابق ہی

عمل کریں، کیونکہ ہماری دعوت و تبلیغ کا موضوع ہی امر بالمعروف و نہیں عن الممنور ہے اور اصلاح و تربیت اور تادیب و تنبیہ کا یہ کام بھی اسی دائرہ میں آتا ہے۔

اس کام کے تعلق سے علماء کرام کی ہدایات و تنبیہات سے فائدہ نہ اٹھانے میں اپنا اور دین کا زبردست نقصان ہے اور ان کی اصلاحات و تنبیہات کو مخالفت پر محمول کرنا اور ان سے بدگمان یا بذباز ہونا یا قطع تعلق کرنا نہایت خطرہ اور ہلاکت کی بات ہے، لیکن عموماً لوگوں کے مزاجوں میں غلو اور جہالت کی وجہ سے ایسی تنگ نظری پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی اصلاحی بات اور تنبیہ کو سننا گوارہ نہیں کرتے بلکہ اس کو مخالفت پر ہی محمول کرتے ہیں یہ چیز سب کے لئے بڑی نقصان دہ ہے۔

ہمارے اکابر خصوصاً شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ کا اس دعوت تبلیغ سے جو تعلق تھا اور اس سلسلہ میں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ اہل نظر سے مخفی نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دعوت و تبلیغ کے متعلق مختلف موقعوں پر جب کچھ اصلاحات و تنبیہات فرمائیں تو نادان حضرات ان کو بھی دعوت و تبلیغ کی مخالفت کا طعنہ دینے سے نہ چوکے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ خود تحریر فرماتے ہیں:

”میرے اکابر کی طرف سے جو بعض موقعوں پر بعض جزوی تنبیہات ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ان اکابر کو جماعت تبلیغ کا مخالف قرار دے کر اب ہوا دی جا رہی ہے.....

میں بھی تبلیغی جماعت اور کارکنوں کی کوتا ہیوں پر تنبیہات کرتا رہتا ہوں، بلکہ اپنی حماقت سے پچاچان (حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ) نور اللہ مرقدہ کے دور میں ان پر بھی تلقید سے نہیں چوکتا تھا اور ان کے بعد عزیزانم مولانا یوسفؒ اور انعام الحسن صاحب سلمہؒ کے دور میں نہ ان محترم عزیزوں پر، بلکہ قدیم و جدید کارکنوں پر نکیر کرتا رہا ہوں، تحریر ابھی تقریر ابھی،

اسی طرح حجاز، پاکستان، افریقہ کے دوستوں کو بھی نکیر و تنبیہ سے نہیں چھوڑا، یقیناً میرے بہت سے خطوط میں یقیناً میں، نکیر میں اور اعتراضات ملیں گے۔  
میرے نزدیک جیسا کہ بعض معتبرین کا اعتراض حضرات دہلی پر ہے کہ وہ معتبرین کے اعتراض کو گوزشتہ سمجھتے ہیں، میں ان سے زیادہ سمجھتا ہوں۔  
البتہ کسی بڑے سے بڑے شخص کے متعلق بھی میرے پاس کوئی شکایت پہنچ لے تو میں نے اس پر نکیر اور تنبیہ میں بھی کبھی کسر نہیں چھوڑی۔

(جماعت تبلیغ پر اعتراضات کے جوابات ص: ۲۰)

یہ ہے ہمارے تبلیغی اکابر و سرپرست کا طرز عمل جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہے، انہیں کے نقش قدم پر ہم کو چلانا چاہئے۔

کوئی بھی دین کی خدمت انفرادی یا اجتماعی طور پر انجام دی جائے اور کتنی ہی خلوص اور اچھے جذبہ سے کی جائے، اداووں کی شکل میں یا تنظیم و تحریک کی شکل میں، اصلاحات و تنبیہات کی ضرورت تو کبھی بھی اور کہیں بھی پیش آسکتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ میری امت میں ہر وقت ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو حق کو غالب کرے گی، احراق حق و ابطال باطل کرے گی اور ہر صدی میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو پیدا کرے گا جو دین کو نکھار کر رکھ دے گا، حق و باطل، کھرے کھوٹے اور صحیح و غلط میں امتیاز کر دے گا۔

(ابوداؤ د کتاب الملاحم)

الحمد للہ ہر زمانہ میں ایسے علماء حق موجود رہے ہیں جنہوں نے یہ خدمت انجام دی ہے، کتنی نامناسب بات ہو گی اگر دعوت و تبلیغ سے متعلق قابل اصلاح امور کی طرف اصحاب تبلیغ کو توجہ دلائی جائے تو وہ اس کو اس کام کی مخالفت و بدخواہی پر محبوں کریں یا اعتراض و طعن و شنیع کا الزام دیں، جب کہ ہمارے کام کا موضوع بھی منکرات پر نکیر اور قبل اصلاح باتوں کی اصلاح کرنا اور ان کو قبول کرنا ہے، ایسی اصلاحات کو جو اپنوں کی جانب سے خیر خواہی کے

جذبہ سے ہوں ان کو مخالفت کا طعنہ دینے میں بدگمانی، بہتان تراشی، بذریانی، دوسرا کی تذلیل و تحقیر اور اس کو بدنام کرنے نیز حق بات کو قبول نہ کرنے، اور تکبر جیسے کتنے گناہ کبیرہ کا ارتکاب لازم آتا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے ہمدردوں اور محبین و خیرخواہوں کو بخواہ سمجھ کر اپنے سے دور کرنا اور کام کو نقصان پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

کتنی موٹی سی بات ہے کہ ایک سن رسیدہ تجربہ کار ماہر حافظ و قاری قرآن پڑھنے میں اگر غلطی کر جائے اور کوئی چھوٹا بچہ بھی اس کو لوٹک دے تو بچے کے اس ٹوکنے کو کیا اعتراض اور مخالفت کہا جائے گا اور قاری صاحب کو کیا اس کے لقمہ کو قبول کرنا واجب نہ ہوگا؟

ایک باپ اپنے بیٹے کی غلط باتوں اور حرکتوں پر اس کو روک ٹوک کرتا ہے، اہل مدارس اور ان کے سرپرست و اہل شوریٰ مدرسے کی خامیوں اور کوتاہیوں کی نشان دہی کر کے ان کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے ہیں، مشايخ عظام خانقاہوں میں ہونے والی کوتاہیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور ان اصلاحی کوششوں کو بیٹے کی مخالفت، مدرسے کی مخالفت، خانقاہ کی مخالفت نہیں بلکہ عین شفقت و ہمدردی اور ترقی و کامیابی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، پھر حضرات اہل علم جن کا منصبی فریضہ بھی یہی ہے اگر وہ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے اصلاحی امور کی طرف توجہ دلائیں تو ان کی اصلاحات و تنبیہات کو اس کام کی مخالفت پر کیسے محمل کیا جا سکتا ہے؟ اور ان کا قبول کرنا کیوں واجب اور ضروری نہ ہوگا۔

دعوت و تبلیغ، تعلیم و تدریس، ترکیہ و تصوف سب کاربنوت میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بھی تھے، معلم بھی تھے، مزکی بھی تھے، قرآن و حدیث میں آپ کے یہ سارے اوصاف بیان کئے گئے ہیں، آپ کے بعد صحابہ انہیں کاموں کو انجام دیتے رہے ہیں، اہل سنت والجماعت میں شمار کئے جانے والے جتنے بھی طبقات ہیں کسی نہ کسی نوعیت سے سب نے ان کاموں کو اختیار کیا اور انجام دیا ہے اور قرن اول یعنی عہد صحابہ سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، یہ تینوں شعبے ہمارے ہیں، تبلیغ بھی ہماری ہے،

مدرسہ اور خانقاہ ہیں بھی ہماری ہیں، ہم کو سب کو لے کر چلنا ہے، سب کام کرنے والے ایک دوسرے کے محسن و رفیق ہیں فریق نہیں، حلیف ہیں حریف نہیں، معاون ہیں مخالف نہیں، اپنے ہیں غیر نہیں۔

قارئین کرام! دشمنانِ اسلام کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کارہائے نبوت کو انجام دینے والوں میں (خواہ وہ اہل تبلیغ ہوں یا اہل مدارس و خانقاہ) ان میں آپس میں اختلاف اور پھوٹ پڑ جائے، عوام کا علماء سے رشتہ ٹوٹ جائے، ایک دوسرے سے بدگمان ہو کر مدقابیں بن کر میدان میں اتر آئیں، یہ تو شیطان و دشمنانِ اسلام کی سازش ہے، ہم کو ان سے ہوشیار اور چوکنار ہنا چاہئے، ہمارا کام توڑ پیدا کرنا نہیں جوڑ پیدا کرنا ہے، علماء و دینی مدارس اور دعوت تبلیغ کا کام سب ہمارے لئے نعمت و رحمت ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے، وہ ہم سے ہم ان سے، غلطیاں و خامیاں کس میں نہیں ہوتیں، ان کی اصلاح کی مخلصانہ مناسب کوشش کرنا شرعاً مطلوب ہے۔

اسی نقطہ نظر سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی دعوت و تبلیغ سے متعلق اہم ہدایتیں جمع کی گئی ہیں۔

اگر ان ہدایتوں اور نصیحتوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا جاتا رہے گا تو انشاء اللہ ہر لحاظ سے مفید اور بہتر ہو گا، تمام طرح کے شرور و فتن اور باہمی اختلاف و انتشار سے حفاظت رہے گی اور وسعت و ہمہ گیری کے ساتھ اس کام کی جڑیں مضبوط ہوتی رہیں گی۔

اصحاب دعوت و تبلیغ خواہ وہ نئے ہوں یا پرانے اگر واقعی دعوت و تبلیغ کا کام صحیح معنی میں کرنا چاہتے ہیں اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کو کچھ سمجھتے ہیں تو ان کی روح اور دل سے نکلی ہوئی آواز اور ان ہدایتوں اور نصیحتوں کو بار بار پڑھیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

## علماء کرام سے عاجزانہ گذارش

علماء کرام سے اور خصوصاً ان علماء کرام سے جو عملی طور پر تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں اور تبلیغ میں کچھ وقت بھی لگاچکے ہیں، نیز تبلیغ سے منسلک حضرات کا ان کو اعتماد بھی حاصل ہے ان سے اور اسی طرح ذمہ داران تبلیغ، ارباب حل و عقد سے احقر کی عاجزانہ گذارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نیز مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی بھی ہدایت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اس دعوت تبلیغ کے کام کی اور اصحاب تبلیغ کی سر پرستی و رہنمائی فرمائیں، جتنی باتیں غلط یا غلو اور افراط و تفریط پر مشتمل اور راہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں مثلاً اس کام کی اہمیت اور فضائل کے تعلق سے بیان کئے جانے والے بہت سے ایسے واقعات و مسئلہ لات اور بہت سی بیان کی جانے والی ایسی حدیثیں جن کا حدیث کی معتر کتابوں میں کوئی وجود نہیں، تحقیق کے بعد ان پر روک ٹوک اور مناسب اصلاح کی کوشش فرمائیں، وہ قبول کریں یا نہ کریں ہم کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہئے کیونکہ یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے۔

ایمان و یقین پر محنت کرنے اور اس کو بنانے کے عنوان سے اس وقت تبلیغی جماعت کی برکت سے وسیع پیمانے پر دن رات سارے عالم میں جس انداز سے محنت ہو رہی ہے گذشتہ صدیوں میں شاید اس کی نظیر نہ ملے گی، لیکن کمال ایمان کا معیار کیا ہے؟ کامل ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں، وہ کون سے اعمال و اخلاق اور عادات ہیں جن کے بغیر آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس کے لئے علماء کرام کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔

قرآن و حدیث میں مختلف موقعوں میں بہت سے اعمال و اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد کہا گیا ہے **أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا**۔ **أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونُ**۔ **أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ**۔ **أُولَئِكَ هُمُ**

الْوَاشْدُونَ . اُولئکَ فِي جَنَّاتٍ مُّكَرَّمَوْنَ . کہ ان اعمال و اخلاق اور اوصاف سے متصرف حضرات ہی سچے پکے مومن اور مرتقی ہیں یہی لوگ راشد اور جنت کے وارث ہیں۔

مثالاً پ ۲ سورہ بقرہ آیت نمبر: ۶۷، پ ۱۹ انفال: ۲، پ ۸ امومنوں: ۱۰، پ ۲۶، حجرات: ۷، پ ۲۹ معارج: ۲۲، پ ۳۵ تا ۳۷، پ ۱۹ الفرقان: ۲۳ تا ۲۷ میں ان اوصاف کو بیان کیا گیا ہے جن کے بغیر آدمی کامیاب اور کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، انہیوں پارہ میں عباد الرحمن یعنی اللہ کے مخصوص بندوں کے (کہ وہی کامل ایمان والے ہیں) اوصاف بیان کئے گئے ہیں، اگر یہ اوصاف کسی صاحب ایمان میں پائے جائیں تب وہی اس کو کامل ایمان والا کہا جاسکتا ہے ورنہ نہیں۔

لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک میں ذکر کردہ ان اعمال و اوصاف میں سے ایک ایک تفصیل کے ساتھ آسان اسلوب میں ایمان کی محنت کرنے والوں کے سامنے بیان کیا جائے خواہ عام جلسوں اور جمعہ کی دن کی تقریروں میں یاد رکھنے کے لیے اسی طرح احادیث مبارکہ کو لیجئے، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکوہ شریف کی کتاب الایمان کو اٹھا کر دیکھئے کہ ایمان کے تعلق سے کتنے اعمال و اوصاف اور اخلاق و عادات کا ذکر کیا گیا اور ”من الایمان“، ”من الایمان“ کہہ کر کتنی باتوں کو بیان کیا گیا ہے، اب اگر ایمان کی محنت کرنے والوں میں وہ سارے اوصاف اور اعمال و اخلاق پائے جا رہے ہوں تو ان کا ایمان کامل سمجھا جائے گا ورنہ نہیں، یہی کمال ایمان کا معیار اور کامل ایمان والوں کی شناخت ہے۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے وقت میں تو حضرات اہل علم جو تبلیغی کام سے منسلک ہو چکے تھے ان کو کتب حدیث کی ”کتاب الایمان“ کی بڑے اہتمام سے تعلیم ہوتی تھی چنانچہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:

نماز کے بعد مولانا (محمد الیاس صاحب<sup>ر</sup>) حجرہ میں واپس تشریف لے گئے، حاضرین کو دو گروہوں میں منقسم کیا گیا، ایک عربی وال طبقہ اور ایک غیر عربی وال... عربی وال طبقہ کو کتاب الایمان سے چند حدیثیں پڑھ کر سنائی گئیں اور ان پر باہم مذاکرہ رہا، معلوم ہوا کہ یہاں کے مقیم حضرات کو اس نصاب کی تکمیل ضروری ہے۔ (مولانا محمد الیاس<sup>r</sup> اور ان کی دینی دعوت ص: ۱۶۳)

خود مولانا محمد الیاس<sup>r</sup> کے مخطوطات (ص: ۱۰۶) وغیرہ میں بخاری شریف کی کتاب الایمان (ص: ۱۲) میں ذکر کردہ حسن بصری، ابن ابی ملکیہ وغیرہ کے اقوال جو ایمان و نفاق کے متعلق ہیں ملتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ر</sup> اور آپ کے وقت میں تبلیغ سے نسلک حضرات اہل علم کتب حدیث کی کتاب الایمان اور اس کے متعلق کو خاص طور پر پیش نظر رکھتے تھے اور اس کا مطالعہ و تعلیم بھی کرتے تھے، ایمان پر محنت کرنے والوں میں الحمد للہ ایسا جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایمانی اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے اور قبول کرنے کو دل و جان سے تیار ہیں البتہ ان کو بتلانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔

بخاری شریف کتاب الایمان کے ص: ۶ کے ابتداء ہی میں امام بخاری<sup>r</sup> نے حضرت عمر بن عبد العزیز کا مکتوب نقل فرمایا ہے کہ ایمان کے کچھ شرائع و احکام اور فرائض و سنن اور حدود و قیود ہیں جو ان کو ادا کرے گا اور حدود و قیود کی رعایت کرے گا اس کا ایمان تو کامل ہو گا اور جو ان بالتوں کا لحاظ نہ کرے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزَ إِلَى عُدَيِّ بْنِ عَدَى أَنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ، وَهُدُوْدًا وَسِنَنًا فَمَنْ أَسْتَكْمَلَهَا أَسْتَكْمَلَ إِيمَانُهُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمَلْهَا لَمْ يَسْتَكْمَلْ إِيمَانُهُ الخ۔ (بخاری شریف ص: ۶ ج: ۱)

ایمان کے شرائع و احکام اور سنن و احکام کا تعلق عقائد و عبادات، معاملات،

اخلاق، معاشرت، معيشت سب ہی سے ہے، جن کو درست کئے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اسی طرح حدو دو قیود میں مکروہات و محرمات اور منکرات سبھی داخل ہیں جن سے بچے بغیر بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا، یہ عمر بن عبد العزیزؓ کا فیصلہ ہے جس کو امام بخاریؓ نے کتاب الائیمان میں نقل فرمایا ہے۔

اس لئے حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان ایمانی اوصاف، اعمال و اخلاق کو ان اصحاب تبلیغ تک تقریر یا تحریر کے ذریعہ پہنچانے کی کوشش کریں جو پورے اخلاص کے ساتھ ایمان کو بنانے اور اس کو کامل کرنے کی محنت میں مصروف ہیں اور اصحاب تبلیغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں کی طرف توجہ کریں، غور سے سینیں، پڑھیں اور اسی کے مطابق اپنے ایمان کو کامل بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کے لئے قبول فرمائے۔

اسی طرح دعوت و تبلیغ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے والے تمام ساتھیوں کو اس بات سے بھی آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دعوت و تبلیغ جس کا قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے جس کا حاصل معروفات کو پھیلانا اور منکرات کو روکنا ہے، لیکن معروف و منکر کی تعریف کیا ہے، معروفات اور منکرات کے دائرہ میں کون کون سے امور آتے ہیں اس کے لئے ہم کو کتاب و سنت کی روشنی میں مفسرین و محدثین کی تصریحات کے مطابق دعوت کا کام کرنے والوں کو آگاہ کرنا ضروری ہوگا کہ یہ معروف ہے اور یہ منکر، مثلاً امام ترمذیؓ نے باب منعقد کیا ہے ”باب ماجاء فی صنائع المعروف“ ص: ۷۱ ج ۲ پھر اس کے تحت حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل فرمائی ہے جس میں تقریباً اس باتوں کو معروفات اور صدقہ میں شمار کیا ہے، اور دوسرے معروفات کو دوسری حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔

اسی طرح منکرات کا دائرة بھی بہت وسیع ہے، بعض محدثین نے تو بہت سے منکرات

ومنہیات اور گناہ کبیرہ پر مشتمل مستقل کتابیں تحریر فرمادی ہیں مثلاً علامہ ذہبی کی "الکبائر" اور حافظ ابن حجر گی "الزواجر عن اقتراض الکبائر" اردو میں ایک مختصر رسالہ "جزاء الاعمال"، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا بھی ہے جس کے پڑھنے کی اور تبلیغ نصاب میں اس کو شامل کرنے کی مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے تاکید بھی فرمائی ہے۔

ان کبار و منکرات اور منہیات سے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو باخبر کیا جائے کیونکہ یہ ساری باتیں بھی دعوت و تبلیغ کے دائرہ میں آتی ہیں اور یہ کام علماء ہی کے کرنے کا ہے، الحمد للہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کا ذہن بناؤا ہے، اگر وہ اپنے کام میں مخلص ہیں تو ضرور علماء کی ان باتوں کو تسلیم کریں گے اور اپنے دائرة عمل میں اس کو نافذ بھی کریں گے اور اسی وقت صحیح معنی میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے شمار کئے جائیں گے، اس لئے وہ علماء کرام جو دعوت و تبلیغ کا ذہن رکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ ان باتوں کی صحیح معلومات حاصل کریں اور پھر اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لئے قبول فرمائے۔

اخیر میں تمام اصحاب تبلیغ، ارباب مدارس و مشائخ دین سے عاجزانہ گذارش ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو یادیں مدارس اور خانقاہیں سب اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت ہیں ان سب کی قدردانی اور حفاظت ہم سب پرواجب ہے تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کے تحت ہم سب پر ایک دوسرے کی نصرت و اعانت بھی حسب استطاعت واجب ہے، نبی کے وارث اور جانشین جو کارنبوت انجام دینے میں مصروف ہیں خواہ علماء ہوں یا مشائخ ان کی تکریم و تعظیم اور ان کے حقوق ادا کرنے کے ہم مکلف بنائے گئے ہیں، کارنبوت کو انجام دینے والے تمام طبقات اور جماعتوں کو باہم متحد ہو کر رہنا اور انتشار و اختلاف سے امت کو اور اپنے کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت و رہبত والی وہ طویل نماز جو اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھی تھی اور پھر رورک اور گڑگڑا کر کی جانے والی اس دعاء کی لاج رکھیں کہ یا اللہ

میری امت میں اختلاف نہ ہو، میری امت آپس میں لڑے جھگڑے نہیں۔

(ترمذی شریف ص ۲۰۷ حج باب سوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثالثاً فی امتہ)

خدارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے امت کو اختلاف و جھگڑے سے بچائیں، ایک دوسرے کی تنقیص و توہین اور بدنام کرنے نیز بدگمانی و بذریانی سے پرہیز کریں، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپسی انتشار و اختلاف اور کام کی ناقدرتی کی وجہ سے ہم ان نعمتوں سے محروم کر دیئے جائیں، یا ہم سے توفیق سلب کر لی جائے، یا یہ کام طرح طرح کی آزمائشوں اور مصیبتوں کا شکار ہو جائے جو دراصل ہماری ناقدرتی و بے اعتدالی کا نتیجہ ہو گا، جیسا کہ اس وقت ایسے خطرات محسوس کئے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعِيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعِيرُ وَا مَا بِأَنفُسِهِمْ -

محمد زید مظاہری ندوی

استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

۵ روزی الحجہ ۱۴۳۵ھ

## کلمات تشکر و تحدیر یہ نعمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمد اللہ و نصلی علی رسلہ الکریم محمد و علی آلہ و اصحابہ، اجمعین

اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اس کی توفیق نصیب فرمائی کہ  
اپنے تمام دینی و قسمی اور تبلیغی کاموں میں صرف اپنے علم و فہم پر اعتماد نہ کر کے حسب فرمان  
خداوندی و اُمُرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ، وَشَاؤْرُهُمْ فِي الْأَمْرِ اپنے اساتذہ اور اکابر امت  
ومشايخ دین سے مشورے لیتا رہتا اور ان ہی کی ماتحتی وزیر گرانی کام کرتا ہے، ہم نہایت  
منون و شکر گزار ہیں اپنے ان اساتذہ، اکابر و مشايخ کے جن کے مفید مشوروں اور ہدایتوں  
سے مجھے رہنمائی ملتی رہتی ہے۔

**شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوس صاحب دامت برکاتہم**

**مظاہر علوم سہارنپور**

(۱) خصوصاً احقر کے مرbi محسن اور شیخ، محدث عصر، جناب مولانا محمد یوس  
صاحب دامت برکاتہم (شیخ الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارنپور) کے۔

احقر نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے افادات پر کام کی تفصیل جب  
حضرت کے سامنے بیان کی اور کتاب تیار ہونے کے بعد کتابت شدہ مسودہ حضرت کی  
خدمت میں پیش کیا، تو حضرت نے بغور دیکھا، پسند فرمایا اور دعا یہ کلمات کے ساتھ کچھ  
نصیحتیں بھی فرمائیں جو آگے درج ہیں، احقر نے اپنی کتاب کے مقدمہ کے اس حصہ کو

بطور خاص حضرت کی خدمت میں ملاحظہ کے لئے پیش کیا جس میں ”اشرف السوانح“ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ ابتداء میں دعوت و تبلیغ کے سلسلہ کی محنت اور فود کی روائی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اپنی نگرانی میں فرمائی تھی جس میں مولانا محمد الیاس صاحبؒ بھی تشریف لے گئے تھے، اور جس میں قصبه نوح وغیرہ کے اطراف میں تبلیغی دورے کا تذکرہ ہے، احرقر نے دریافت کیا کہ اس سے مراد یہی مولانا الیاس صاحب کاندھلوی ہیں یا کوئی اور؟ حضرت نے فرمایا یہی مولانا الیاس صاحب کاندھلوی ہی مراد ہیں، حضرت شیخ مدظلہ نے احرقر کی کتاب و مقدمہ اور حواشی کو پسند فرمایا اور برکت و بقولیت کی دعا دی۔

## حضرت مولانا سید محمد رابع حسنسی صاحب ندوی دامت برکاتہم

### ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ

(۲) اسی طرح میں نہایت ممنون و شکر گزار ہوں استاد محترم مخدوم مکرم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنسی صاحب ندوی دامت برکاتہم (ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ) کا کہ انہوں نے تصنیفی کاموں میں جب بھی رہنمائی چاہی مفید مشوروں اور نیک دعاؤں سے نوازا، احرقر نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے افادات پر مشتمل کام کا تذکرہ کیا، حضرت نے پسند فرمایا، احرقر نے دریافت کیا کہ اس کتاب میں احرقر نے جناب افتخار فریدی صاحبؒ کی کتاب ارشادات و مکتوبات (جس میں انہوں نے مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے ملفوظات و مکاتیب جمع کئے ہیں) سے بھی مضامین لئے ہیں حضرت نے ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں بتایا، کتاب تیار ہونے کے بعد احرقر نے حضرت کی خدمت میں کتاب پیش کی، اس وقت حضرت نے کتاب کی فہرست و عنوانات، حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے افادات اور اکابر کی تقریظات کو ملاحظہ فرمایا، اور مسرت و اطمینان کا اظہار فرمایا، البتہ کتاب کے نام کے تعلق سے حضرت نے مشورہ دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے، احرقر نے کتاب کا نام

رکھا تھا ”کارکنان تبلیغ کے لئے قابل توجہ باتیں“، احقر نے عرض کیا کہ حضرت جو بھی نام تجویز فرمادیں وہ رکھ لوں گا، حضرت نے فرمایا بجائے ”قابل توجہ باتیں“ کے ”اصول و آداب“ یا ہدایات وغیرہ نام رکھ دیا جائے، احقر نے عرض کیا کہ اسی نام کی دوسری کتابیں آرہی ہیں، حضرت نے غور کرنے کے بعد فرمایا ”کارکنان تبلیغ کے لئے قابل توجہ باتیں“ کے بجائے ”مفید باتیں“ زیادہ مناسب ہے اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، اس لئے حضرت کے مشورہ اور تجویز کے مطابق اب یہی نام رکھا گیا، اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جزاء خیر دے اور ان کے سایہ کو تادیر یہ مارے سروں پر قائم رکھ کے اتنی باریک بنی اور دوراندیشی سے حضرت والا مفید مشوروں سے نوازتے اور پوری نگرانی فرماتے ہیں۔  
(یہ پوری تحریر حضرت اقدس ناظم صاحب دامت برکاتہم کی نظر ثانی کے بعد شامل کی گئی ہے)

## حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم

### مہتمم دارالعلوم دیوبند

(۳) اسی طرح میں نہایت ممنون اور شکر گذار ہوں جناب مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مدظلہ (مہتمم دارالعلوم دیوبند) کا کہ انہوں نے نہ صرف کتاب کے معتدہ حصہ کا بلکہ اس کے مقدمہ کا بھی بالاستیعاب مطالعہ فرمایا اور اس کے بعد اپنے تاثرات کا جس انداز سے اظہار فرمایا وہ آپ کے سامنے ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک اس وقت اس جیسے کام اور اس جیسی کتاب کی کتنی اہمیت اور کتنی شدید ضرورت ہے اور کس دلسوzi اور فکر مندی کے ساتھ آپ اس کے لئے فکر مند ہیں، نیز دوسرے علماء و اکابر کی دلسوzi اور فکر مندی کا بھی آپ کو احساس ہے، ان ساری باتوں کو منظر رکھتے ہوئے آپ نے نہ صرف مسلک دیوبند بلکہ تمام اہل حق، ارباب بصیرت کی ترجمانی کرتے ہوئے اصل حقیقت اور صحیح موقف کو واضح فرمایا، اور تبلیغی جماعت کا دینی مدارس خصوصاً ام المدارس

دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ارباب حل و عقد اور ان کے ذمہ داروں سے شروع ہی سے جو ربط رہا ہے اور ان مدارس کے اکابر علماء و فضلاء نے اس تبلیغی جماعت کی جس حیثیت سے سرپرستی فرمائی اور اب بھی فرمائے ہیں، ان سارے روابط اور تعلقات کو پیش نظر کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے کو جماعت کا ایک فرد اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے تمام اصحاب تبلیغ کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے ان افادات و ہدایات کے مطابعہ کرنے اور انہیں کے رہنمائی میں کام کرنے کی نہ صرف ترغیب بلکہ تکید فرمائی ہے، احقرنا کارہ کی اس معمولی کوشش کی جس قدر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے قدردانی و حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ہم اس کے نہایت شکرگذار ہیں اللہ تعالیٰ ہی دنیا و آخرت میں ان کو اس کا بہتر صلحہ عطا فرمائے۔

## حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب مظاہری دامت برکاتہم

### ناظم مظاہر علوم سہارنپور

(۲) اسی طرح ہم بہت بہت شکرگذار ہیں مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم عالی جناب مولانا محمد سلمان صاحب مظاہری مدظلہ العالی کے کہ انہوں نے اس سے قبل بھی اس کام کے متعلق احقر کی بھرپور تائید و ہمت افزائی فرمائی، احقر نے دعوت تبلیغ سے متعلق بعض ذمہ دارن مرکز نظام الدین کو خطوط لکھے تھے اور بھیجنے سے قبل حضرت مولانا محمد سلمان صاحب اور دیگر اکابر سے مشورے بھی لئے تھے، حضرت مولانا محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے اس طویل مکتب کو جو بڑے سائز کے اٹھارہ صفحات پر مشتمل تھا بغور ملاحظہ فرمایا اور لفافہ کی پشت پر یہ لکھ کروالیں کیا کہ ”پورا پڑھ لیا جزاک اللہ، اس کو صحیح دبجھے نفعنا اللہ ایانا و ایاهم“ بعد کی ملاقاتوں میں احقر نے عرض کیا کہ احقر نے ابھی صرف چند باتیں لکھی تھیں ابھی بہت سے امور لکھنا باقی ہیں، حضرت

نظم صاحب نے فرمایا سب لکھئے اور لکھ کر بھیج دیتھے، اب تک تم نے جو لکھا ہے اس کا بہت فائدہ محسوس کیا گیا اور کافی اصلاح اور تبدیلی بھی محسوس کی گئی، آپ جیسے لوگوں کو ضرور لکھنا چاہئے، اللہ تعالیٰ جزا خیر دے حضرت ناظم صاحب کو کہ انہوں نے احقر کی بہت ہمت افرائی اور تائید فرمائی۔

## حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ

### مرکز نظام الدین دہلی

(۵) اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب<sup>ؒ</sup> کے فرزند و جانشین حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب<sup>ؒ</sup> جو میرے اور حضرت تھانوی<sup>ؒ</sup> کے افادات پر مشتمل میری ترتیب دی ہوئی کتابوں کے بڑے قدر داں تھے، ملاقات کے وقت پہلا سوال ان کا یہ ہوتا تھا کہ نئی کتاب کون سی لائے ہو؟ مرکز نظام الدین حاضری کے موقع پر جب بعض ذمہ داروں کے نام احرف خط لے کر حاضر ہوا، حضرت مولانا زبیر صاحب<sup>ؒ</sup> نے اس وقت بڑے اہتمام سے اس کی فوٹو کاپی مانگی نیز اسباب و اعمال سے متعلق احرف نے اپنی کتاب ”اسباب و اعمال اور تدبیر توکل کا شرعی درجہ“ بھی خدمت میں پیش کی اور اسی نوع کے بعض امور سے متعلق مشورے بھی لئے، موصوف کا یہ جملہ اب تک یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا ”استقامت قلبک ولوافتک المفتون“، مطلب یہ کہ تم جو کام کر رہے ہو اور تمہارا دل اس سے مطمئن ہے تو لوگ کچھ بھی کہتے رہیں آپ اپنا کام کیجئے، کسی کے کہنے کی کچھ پرواہ نہ کیجئے، موصوف کی باتوں سے بڑی تسلی ہوئی، آج اگروہ حیات ہوتے تو اس کتاب کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور درجات عالیہ نصیب فرمائے۔

## (۶) حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب الاعظمی ندوی

### مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

ہم بہت بہت شکر گزار اور احسان مند ہیں استاذ محترم مخدوم مکرم حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب عظیمی ندوی دامت برکاتہم کے کہ احقر نے جب تقریظ لکھنے کے لیے حضرت کی خدمت میں مسودہ پیش کیا تو آنحضرت نے صرف احقر کی درخواست کو منظور فرمایا بلکہ بلند کلمات سے احقر کی ہمت افزائی اور ستائش فرمائی، اور مسودہ کا بنظر غائر مطالعہ فرمائ کر نہایت اہتمام سے بلند کلمات سے تقریظ تحریر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو اپنی شایان شان جزاء خیر نصیب فرمائے۔ آمین۔

(۷) اسی طرح احقر اپنے مرکز نظام الدین کے اور اس کے علاوہ بھی تمام تبلیغی اکابر کا احسان مند اور شکر گزار ہے جنہوں نے اس کام کے تعلق سے ہماری تائید و ہمت افزائی فرمائی، اور مفید مشوروں سے نوازا۔ جزاهم اللہ خیرالجزاء۔

(۸) اور سب سے زیادہ شکر و دعا کے مستحق احقر کے والد صاحب اور والدہ ماجدہ ہیں، جن کے زیر سایہ احقر کی تعلیم و تربیت ہوئی اور میری تمام تصنیفات و تالیفات اور دین کے تمام کاموں کو خصوصاً دعوت و تبلیغ کے سلسلہ کی احقر کی کوششوں اور کتابوں کو جنہوں نے سر اہا، اور ہر موقع پر نیک دعاؤں اور مفید مشوروں سے نوازا، اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اکابر و محسینین کے سایہ کو تادیر ہمارے سروں پر بعافیت قائم رکھے، اور دنیا و آخرت میں اپنی شایان شان جزاء خیر نصیب فرمائے۔

محمد زید مظاہری ندوی

استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

۵ روزی الحجہ ۱۴۳۵ھ

## تصدیق و تائید

### حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب مظاہری دامت برکاتہم ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد!

برادرم محترم مولانا مفتی محمد زید صاحب مظاہری استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا مرتب کردہ ایک قیمتی، گرانقدر رسالہ جوانہوں نے بانی جماعتِ تبلیغ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے ارشادات و افادات کی روشنی میں جماعتِ دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والے احباب اور کارکنانِ مراکز تبلیغ کی رہنمائی اور استفادے کے لیے مرتب فرمایا ہے، وہ اس وقت میرے پیش نظر ہے، احقر کو بالاستیعاب رسالہ کے مطالعہ کا موقع نہیں ملا، لیکن جستہ جستہ مضامین اور فہرست پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوا کہ دعوت کے اصول و آداب اور اس کی روح و ضوابط کا حضرت بانی جماعت قدس سرہ کے بلند مضامین کی روشنی میں ایک قابل قدر ذخیرہ جمع فرمایا گیا ہے، جزاہ اللہ تعالیٰ خیرالجزاء۔

امید ہے کہ حضرت بانی جماعت قدس سرہ کے ان بلند مضامین اور قیمتی ہدایات و افادات کی مبارک نسبت سے دعوت کے کام میں مشغول رہنے والے احباب کی نگاہوں میں ان مضامین کی قیمت اور اہمیت غیر معمولی ہوگی اور اپنی بہت سی غلطیوں اور کوتاہیوں پر (جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں) تنبہ ہوگا، کام کا صحیح موضوع اور مقصد پیش نظر ہے گا، بہت سے اصول و آداب (جو ہر وقت مستحضر نہیں رہتے) وہ سامنے رہیں گے، جس سے ان کے

حوالے ان شاء اللہ تعالیٰ بلند ہوں گے، اور کام کرنے کی خوب ہمت بند ہے گی۔  
دل سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ اس مجموعہ کی اشاعت کو دعوت کے کام میں مشغول  
تمام احباب کے لیے مفید اور باعث تقویت فرمائے اور مفتی صاحب موصوف مرتب  
رسالہ کو اپنی شایانِ شان، بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقط والسلام

محمد سلمان

ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہار پور

۱۴۳۶ھ

۲۰ نومبر ۲۰۱۳ء

## تصدیق و تائید

حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم

### مهتمم دارالعلوم دیوبند

یہ حقیقت اب محتاج بیان نہیں رہ گئی کہ مر وجد دعوت و تبلیغ کی وہ مبارک محنت جس کا آغاز حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کانڈھلویؒ نے کیا تھا اور اہل حق علماء کرام اور مشائخ عظام کی تائید جماعت کو حاصل تھی اور جس کے بے پناہ فوائد عامۃ المسلمين کی زندگی کا رخ تبدیل کرنے میں نمایاں طور پر تسالم کئے گئے وہ محنت اپنے قدیم سرپرستوں سے محرومی اور ان کے بیان کردہ اصولوں اور ہدایات سے دوری کی بنابر اپنی بے پناہ وسعت اور ہمہ گیری کے باوجود اس راہ سے ہٹتی جا رہی ہے جس راہ پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ اس کو لے کر چلنا چاہتے تھے اور جس کا اظہار انہوں نے بار بار اپنے بیانات، اپنی ہدایات، اپنے مکتوبات اور اپنی خصوصی مجالس میں کیا۔

ایسے ماحول میں اس مبارک محنت کو اس کی اصل راہ سے ہم آہنگ کرنے اور اعلیٰ مقاصد کی تحریک کا راستہ ہموار کرنے کے لئے سب سے مفید طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے ارشادات، ملفوظات، مکتوبات اور ہدایات کو مستند ذرائع سے حاصل کر کے کام کرنے والوں تک پہنچایا جائے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، یہ ایک مخلصانہ خدمت ہے۔

اللہ تعالیٰ جزاۓ خیر عطا فرمائے مولانا مفتی محمد زید صاحب مظاہری کو کہ انہوں نے اس عظیم کام کا بیڑہ اٹھایا ہے اور حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے مکاتیب،

ارشادات، ہدایات، اور بیانات کو جو مستند ذرائع سے مرتب اور محفوظ کئے گئے ہیں ان کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے ان کو عنوانات کے لحاظ سے مرتب فرمایا، اور جہاں ضرورت سمجھی بقدر ضرورت حواشی بھی لگائے۔

میں جماعت کے ایک ادنیٰ خادم ہونے کی حیثیت سے اپنے تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ انہیٰ سنبھیگی اور ٹھنڈے دل سے اس سلسلہ کی تمام تحریریوں کو بغور پڑھیں اور ان کی روشنی میں خود فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنے طریقہ کار اور طرز فکر کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔

اس وقت میرے پیش نظر جناب مولانا مفتی محمد زید صاحب مظاہری استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی مرتب کردہ کتاب ”کارکنان تبلیغ“ کے لئے مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی مفید باتیں اور اہم ہدایات ہے، کتاب کے ٹائٹل سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب دراصل حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کا مجموعہ ہے، مفتی محمد زید صاحب کا اس پر عمل صرف یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، ہدایات، مکتوبات اور ارشادات کو کا برامت کے مرتب کردہ مستند مجموعوں سے منتخب کر کے اور ایک ایک موضوع سے متعلق افادات کو یکجا کر کے ان پر مفید اور ضروری عنوانات قائم کر دیئے ہیں، اور جہاں ضرورت محسوس کی وہاں حواشی کا اضافہ کر دیا ہے۔

میں نے مرتب کا تحریر کرده مقدمہ اور ابتداء کے کچھ صفحات بالاستیعاب دیکھنے کے بعد درمیان کتاب کے متعدد مقامات کی تحریریں دیکھیں۔

حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی کام کرنے والوں کے لئے یہ مجموعہ انہیٰ قیمتی ہدایات، اصول وضوابط اور طریقہ کار کی جامع رہنمائی پر مشتمل ہے۔

حق تو یہ تھا کہ یہ کام مرکز نظام الدین کے زیر انتظام کرایا جاتا اور تمام کام کرنے

والوں کو اس امر کا پابند بنایا جاتا کہ وہ ان ہدایات کا بغور مطالعہ کریں، اس سے دعوت و تبلیغ کے اس طریقہ کا اصل مقصد سمجھنے میں مدد اور جو بانی تحریک حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے پیش نظر تھا، ان ہدایات کو دستورِ عمل کی حیثیت دے کر جماعت کے چھوٹے بڑے کارکنان کو اس کے مطابق عمل کرنے کا پابند بنایا جاتا۔

لیکن صورت حال کچھ یوں بن گئی کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے یہ قیمتی افادات جن کو ان اکابر علماء کرام نے بڑی عرق ریزی اور اہتمام کے ساتھ مرتب کیا تھا جنہوں نے برارہ راست حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی صحبت میں وقت گزارا تھا، ان کے دردار ان کی فکر اور ان کے مقصد کو دیکھا، سمجھا اور محسوس کیا تھا اور ان کو مرتب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان ہدایات کی روشنی میں امت کی زندگی میں پورے دین کو زندہ کیا جائے، علماء کرام کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی جائے، عوام کو علماء سے جوڑا جائے، مدارس اور مکاتب کا نظام مستحکم کیا جائے، تصنیف و تالیف، درس و تدریس، وعظ و ارشاد اور احسان و تذکیرہ کے جو کام علماء و مشائخ کے ہاتھوں مدارس اور خانقاہوں میں انجام پار ہے ہیں ان سب کے اعتراض اور ان کی قدردانی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی اس عمومی محنت کے ذریعہ امت میں دین کی طلب پیدا کی جائے۔

لیکن افسوس کہ وہ قیمتی ملفوظات، ہدایات اور افادات کتابوں کی زینت بن کر رہ گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ محنت حضرت کی ہدایات سے دور ہوتی جا رہی ہے اور اس کے نقصانات کھلی آنکھوں مشاہدے میں آر ہے ہیں۔

مفتش محمد زید صاحب کی یہ محنت الدین النصیحہ کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اس فرض کفایہ کی تکمیل ہے جس کی ضرورت تمام فکر مند علماء محسوس کر رہے ہیں۔

اس لئے اس کتاب کو اور اس سلسلہ کی اگلی کتابوں کو ایک قیمتی امانت سمجھ کر ان کی پذیرائی کرنی چاہئے، اخلاص کے ساتھ اصلاح کی کوشش کو جماعت کی مخالفت سمجھنا بڑی

نادانی کی بات ہے، اگر کوئی ایسا ذہن رکھتا ہے تو اسے اپنا طرز فکر بدلا ناچاہئے، پورے اخلاص اور دیانت داری کے ساتھ کتاب کے مندرجات کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

مفتی محمد زید صاحب اس سے قبل حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانویؒ کے افادات، مواعظ و مفہومات وغیرہ کو موضوعات کے لحاظ سے مرتب کرنے اور ان کی اشاعت کا کام مدت سے کر رہے ہیں اور جماعت کے اکابر علماء کرام کی طرف سے ان کو دعائیں ملتی رہی ہیں اور ان کی بہت افزائی کی جاتی رہتی ہے، اور ان کو حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی، حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی اور دیگر بہت سے اکابر حرمہم اللہ تعالیٰ کی تائید اور ان کی دعائیں حاصل ہوتی رہتی ہیں۔

یہ کام بھی اسی نوعیت کا ہے اور اس کام کی اس وقت شدید ضرورت تھی، اس لئے ان کے اس مخاصانہ عمل کو کسی بھی درجہ میں جماعت کی مخالفت قرار دینا بہت بڑی نادانی ہو گی، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، دین کے لئے کی جانے والی ہر صحیح محنت کو قبول فرمائے اور اپنی نصرت اور ہدایت سے سرفراز فرمائے۔

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ

دارالعلوم دیوبند ، کیمڈی الحجہ ۱۴۲۵ھ

## تصدیق و تائید

### حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب الاعظمی ندوی دامت برکاتہم مهتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف المرسلين وأفضل الأنبياء والمتقين محمد بن عبد الله الأمين، خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين۔

حضرت آدم عليه وعلى نبینا الصلاة والسلام امام الانبياء ہیں، انھیں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دین کی صدابند کرائی، اور روئے زمین پر اصلاح اور دعوتِ إلی اللہ کا الہی نظام شروع ہوا، فرشتوں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکے جواب میں فرمایا کہ: إِنَّمَا أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (میں جو باتیں جانتا ہوں تم کو ان کا علم نہیں ہے)

اس کے بعد دنیا میں انسانی آبادی کا سلسلہ جاری ہوا، اس کی ہدایت و رحمانی کے لئے انبیائے کرام کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت عام ہوئی، جس کی قسمت ہدایت سے وابستہ ہوئی، وہ کامیاب ہوا، اور جس کو یہ سعادت نہیں ملی وہ ناکام رہا، اور خیر و شر سے آباداً یک انسانی دنیا وجود میں آئی، جہاں انبیائے کرام کے ذریعہ دعوت کی فضائل اللہ تعالیٰ کے حکم سے عام ہوئی، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَاغْبَدْنَاهُ) (الانبیاء ۲۵)

اور نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانیت

کی اصلاح، اس کی ہدایت اور کتاب الٰہی کی تعلیم و حکمت کا کام شروع ہو، انسانوں کو غیراللہ کی عبادت، اور مخلوق کی پرستش سے روک کر، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے عقیدہ تو حید و رسالت کی بنیاد پر قائم ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا فَاصْدِعْ بِمَا تُؤْمِنُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (الْجَرْحٖ - ٩٢)

اے نبی ﷺ جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کا آپ اعلان کر دیجئے، اور مشرکین سے روگردانی کیجئے۔

اللہ تعالیٰ نے حضور پاک ﷺ کی بعثت کا مقصد اس طرح بیان کیا ہے، یا ایہا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ يَادِيهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا (آل حزاب ۲۶) اے نبی کریم ﷺ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، اور ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، جو انھیں کے حکم سے ہے، اور وشن چراغ بنایا ہے۔

اس کے نتیجہ میں رسول ﷺ کی امت کا ظہور ہوا، اور اسکو خیرامت کے لقب سے یاد کیا گیا، اور جو ذمہ داری عطا کی گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران - ۱۱۰)

تم خیرامت بنائے گئے ہو اور تم کو انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کیلئے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ تم اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل رکھو۔ خیرامت کی ذمہ داری اہل علم و دعوت، اور امت کے باشura افراد نے قبول کی، اور حالات کے مطابق اسکو انجام دیتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دعوت را لی اللہ کی یہ ذمہ داری نہایت خلوص اور عبادت و اطاعت کے جذبے سے انجام دی، انھیں ہستیوں کے نقش قدم پر ہر زمانے میں اہل علم و دعوت سرگرم عمل رہے، اور

دنیا کے ہر گوشے میں امت کے یہ افراد اپنی دعویٰ ذمہ داری کو انتہائی سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ رضاۓ الہی کی بنیاد پر انجام دیتے رہے۔

ہمارے ملک میں شروع سے علمائے دین نے علم و دعوت کا علم بلند کیا، اور ممکن حد تک اسکے رقبے کو پھیلانے، دعوت کو پہنچانے اور اسلامی روح سے لوگوں کو سرشار کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہے، اور جن ذرائع کو وقت کے تقاضے کے مطابق ضروری سمجھا ان سے تبلیغ و دعوت کا کام لیا۔

گذشتہ صدیوں میں علمائے دین اور اصحاب دعوت و تربیت کی مختلف جماعتوں نے اس نقطہ پر اپنی توجہ مرکوز کی، اور اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دیا۔

زیادہ دور نہ جا کر گذشتہ صدیوں میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے علمی خاندان کے علماء نے دعوت علم و دین کے میدان میں جو خدمات انجام دی ہیں، وہ نہ صرف اس ملک کی اسلامی تاریخ بلکہ عالم اسلام کی علمی، دعویٰ، اور عملی تاریخ میں ایک داعیانہ کردار اور قائدانہ اہمیت کی حامل ہیں، ہندوستان میں علوم اسلامیہ اور خاص طور سے علم حدیث کی نشر و اشاعت میں اس عظیم خاندان اور اسکے فرزندان نے ایک غیری نظام کے ماتحت عظیم خدمات انجام دی ہیں، اور اس کے نتیجہ میں ہندوستان میں اسلامی علوم و فنون کے مرکز اور علوم اسلامیہ کے بے شمار مدارس، جماعتیں قائم ہوئے، اور فکر ویں اللہ کی جامعیت کا تعارف ہوا، اور ہر مسلک و فکر کے علماء نے اس کو اپنایا، اور اس کی طرف نسبت کوفال نیک قرار دیا۔

اور یہ راز کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ہندوستان ہمیشہ سے اولیاء و اصفیاء اور علمائے راشدین اور اہل تربیت شخصیتوں کا مستقر رہا، جن کے فیوض روحانی سے لوگوں کو ایمان و یقین کی روشنی ملی۔

اس سلسلے کی کڑیاں مختلف اطراف و جهات میں، اور اسماء و عناءوں کے اختلاف کے ساتھ آج ہر جگہ موجود ہیں۔

فلکروںی اللہ سے متاثر ہونے والے علماء و دعاۃ میں جماعت تبلیغ کے مؤسس حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شماران با توفیق افراد میں ہوتا ہے جن کا فیض خاص و عام تک پہنچا، انہوں نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر بے لوث دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور یہ دراصل نتیجہ ہے علم عمل کی اس جامعیت کا جوان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔

مناسب ہوگا کہ اس موقع پر علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا ارشاد گرامی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی جامعیت کی شہادت کے طور پر پیش کر دیا جائے، جسے (حضرت مولانا محمد الیاس کی دینی دعوت) کے مقدمہ میں تحریر فرمایا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”ہندوستان میں جن بزرگوں کے دم قدم سے اسلام کی روشنی پھیلی وہ حقیقت میں وہی تھی جن کی ذات میں مدرسہ اور خانقاہ کے کمالات کی جامعیت تھی، کہ وہ اسوہ نبیوت سے قریب تر تھے، اسلئے ان کا فیض بعید سے بعید تر حصہ تک پھیلتا چلا گیا،“

ہمارے رفیق مکرم جناب مولانا محمد زید مظاہری ندوی صاحب استاذ حدیث دار العلوم ندوۃ العلماء نے کارکنان تبلیغ کے لئے حضرت مولانا محمد الیاس کی مفید باتوں اور ان کی اہم ہدایات پر مشتمل یہ کتاب تصنیف کی ہے، یہ دراصل حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوتی زندگی کا ایک عکس جمیل ہے، یہ کتاب تین ابواب پر مشتمل ہے۔  
باب اول: مولانا کے مکاتیب و ارشادات اور مشوروں کی اہمیت۔

باب دوم: اپنے کو بڑوں کے مشوروں کا پابند رکھئے، اور امت کے بزرگوں پر اعتماد کیجئے، ہماری تبلیغی تحریک کا مقصد پورے دین کو زندہ کرنا ہے۔

باب سوم: یہ باب بہت مفصل ہے اور جماعت دعوت و تبلیغ کے تمام رہنمایا اصول کا جامع ہے۔

باب چہارم: اس باب کے ماتحت تین فصلیں ہیں۔

فصل اول: اصلاح معاشرہ کی فکر کی جائے، ہر حیثیت سے۔  
فصل دوم: فرانس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے، دونوں کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔

فصل سوم: تبلیغ کو تقویت پہونچانے کے لئے قلبی و باطنی اور روحانی طاقت کو حاصل کرنے کی ضرورت کا اہتمام کرنا نہایت ضروری امر ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ان شاء اللہ تعالیٰ جماعت دعوت و تبلیغ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کرے گی، دعوت کے کام کو حالات کے مطابق بنانے اور ہر دور و زمانے کے مزاج کو سمجھنے اور اسکی روشنی میں کام کرنے کے لئے پوری رہنمائی عطا کرے گی۔ اس لئے حضور پاک ﷺ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی روشنی میں اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لئے ایک اپنے رہبر کا کام انجام دے سکے گی۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس مخلصانہ کوشش کو شش کو قبول فرمائیں، اور اس کو امت مسلمہ کے حق میں نافعیت کا درجہ عطا فرمادین (آمین)  
وماذلك على الله العزيز۔

رقم المعرف

سعید الرحمن الاعظمي ندوی

مدیر البعث الاسلامی

دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

۱۳۳۶ھ

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۳ء

## تقریظ و تائید

حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کا ندھلوی دامت برکاتہم  
فرزند شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کا ندھلوی

با سمہ سبحانہ و تعالیٰ

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ قائم فرمایا جن میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہدایت کی محنت کی اور صحابہ کو بھی اسی محنت پر لگایا، جس میں تبلیغ، تعلیم اور ترقی کیہ تینوں باتیں شامل تھیں، مسجد نبوی میں یہ تینوں کام ہوتے تھے، ہمارے تمام اکابر انہیں تینوں کاموں کو کرتے رہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے بھی انہیں تینوں کاموں کو کیا اور سب کی اہمیت بتلائی۔

عزیزم مولوی محمد زید سلمہ مظاہری (استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ) نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے تمام ملفوظات و ارشادات اور مکتوبات جو مختلف کتابوں میں پھیلے ہوئے تھے، سب کو یکجا اور مرتب کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں پر بڑا احسان کیا کہ اس میں تبلیغ والوں کے لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی ہدایتوں اور فصیحتوں کو جمع کر دیا، ان ہدایتوں کے مطابق اگر یہ کام کیا جائے گا تو تمام طرح کی گمراہیوں اور فتنوں سے محفوظ رہے گا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ مفتی محمد زید صاحب مظاہری کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، اور امت کے لیے اس کتاب کو نافع بنائے۔ (آمین)

محمد طلحہ کا ندھلوی

۱۴۳۵ھ ابرil رمضان المبارک

## ارشاد گرامی

**محمد عصر حضرت مولانا محمد یوس صاحب دامت برکاتہم**

**شیخ الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارنپور یوپی**

احقر راقم الحروف (محمد زید) نے اپنی کتاب ”اسباب و اعمال اور تدبیر و توکل کا شرعی درجہ“، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوس صاحب کی خدمت میں پیش کی، اس کے کچھ عرصہ بعد اس کتاب کا مسودہ پیش کیا اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کے افادات (مکتوبات و ارشادات) پر کام کی نوعیت اور اس کی تفصیل عرض کی، حضرت اقدس دامت برکاتہم نے نہایت مسرت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا: تمہاری کتاب ”اسباب و اعمال“ ہم نے پڑھ لی، تم نے با تین سب صحیح لکھی ہیں۔ اس کے مضامین سب درست ہیں، ایک حدیث پاک کی شرح کے ضمن میں میرا مضمون بھی آ گیا اچھا ہے وہ محفوظ ہو گیا۔

بس اس کا خیال رکھو کہ اصلاحی بات جو بھی لکھو عمومی انداز میں لکھو، ثبت انداز میں لکھو، پڑھنے والا اس کو مختلف پر مجموع نہ کرے، اس کو پڑھ کر جوش انقام نہ ہو، جوش انفعال ہو، یعنی اس کو پڑھ کر اصلاح کی فکر کا جذبہ ہو۔

تمہارا یہ کام جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کے افادات پر مشتمل ہے، بہت اچھا اور مفید ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کی چیزوں کو مرتب کر کے لاو، کام کرنے والوں کو اس سے بڑی رہنمائی ملے گی، اور ان کی چیزیں سب کے لیے قابل قبول ہوں گی، سب اس کو تسلیم کریں گے، اور عمل میں لا کیں گے۔ اور یہ جو تمہارے تو پیشی حاوی اور ملفوظات کے ضمن میں فوائد و تشریحات ہیں، یہ بھی مناسب ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی وضاحت اور تشریح ہو جائے تاکہ بات پوری سامنے آ جائے، اور سمجھ میں بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، برکت فرمائے اور امت کی اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بنائے، آ میں۔

**حضرت مولانا محمد یوس صاحب شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## مقدمة الکتاب

از مرتب

اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تمام انبیاء میں **فضل البشر** اور سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اسی طرح آپ کے طفیل میں آپ کی امت کو بھی گذشتہ تمام امتوں میں **فضل الاقوام** اور **خیر الامم** بنایا، اور اس امت کے خیر ہونے کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمادیا، ارشاد خداوندی ہے: ”**كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ** أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ (آل عمران پ: ۳۲) تم بہترین امت ہو تم کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم اچھائیوں اور بھلاکیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں اور خرابیوں کو روکتے ہو۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے فضائل بیان فرمائے ہیں، آپ کی امت دوسرے انبیاء کے حق میں شہادت دے گی، جو قابل قبول ہوگی اور آپ ہی کی امت کے لیے سب سے پہلے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، آپ کی امت کے وہ لوگ جو آپ کے زمانہ سے قریب اور قریب تر تھے، وہ تو خیر تھے ہی، ان کی افضیلت و خیریت میں تو کوئی شبہ ہی نہیں اس کی شہادت خود آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دی ہے، **خَيْرُ الْقَرْوَنِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ الْخَ—**

آپ کی امت کے متاخرین یعنی بعد کی صدیوں میں آنے والے لوگ ان کے بھی خیر اور لفظ ہونے کی آپ نے خبر دی ہے، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میری

امت کی مثال تو بارش کی سی ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کا کون سا حصہ زیادہ نافع ہے، آیا شروع کی بارش زیادہ نافع ہے یا آخری کی، یاد رمیان کی، سب ممکن ہے، ”عن انس قال قال رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مثُل امتی مثُل المطر لا يدری اوله خیر ام آخره خیز“۔ (رواہ الترمذی ۵۸۳/۲، مشکوٰۃ باب ثواب ہنہ الامتة)

یہی حال آپ کی امت کا ہے کہ امت کی تاریخ اور مختلف ادوار اور مختلف صدیوں میں کسی بھی صدی میں اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو پیدا کر دے گا جو پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے ایسے نفع بخش ثابت ہوں گے اور ان کے ذریعہ مخلوق کو وہ منافع حاصل ہوں گے جو اس سے پہلے لوگوں کے ذریعہ نہیں ہو سکے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔

ایک حدیث آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کر دے گا۔ (ابوداؤ و کتاب الملائم)

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے جو بالکل بحق اور واقع کے مطابق ہے، اس کی ایک مختصر سی مثال ہمارے اس ملک اور قریبی ملک یعنی ہندو پاک میں فقهاء و محدثین، مصلحین و مجددین اور مبلغین کا وجود اور ان کے علمی و اصلاحی اور تجدیدی وہ کارنا مے ہیں کہ گذشتہ صدیوں میں بھی اس کی نظریہ مشکل سے ملتی ہے، جن کی فہرست طویل ہے، مثلاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی، امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی، حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی، حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ لک۔ ان اساطیریں امت سے اللہ تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے وہ کام لئے ہیں جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی پوری تصدیق ہوتی ہے کہ میری امت کی مثال تو بارش کی سی ہے نہ معلوم بارش کا کون سا حصہ زیادہ نافع ہو گا۔

نمجملہ ان کے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا نذر حلوبی بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

اس آخری دور میں دعوت و تبلیغ کی لائیں سے عمومی پیمانہ پر خاص نوعیت کا وہ کام لیا کہ گذشتہ صدیوں میں اس کی نظیر کم ملتی ہے، جس نے امت میں ایمانی روح پھونک دی، بجھی ہوئی چنگاری کو روشن کر دیا، غفلت کی نیند سونے والوں کو چوکنا اور بیدار کیا اور ان میں دینی شعور بیدار کر دیا، بھولے بھٹکلے صراط مستقیم پر آگئے، آپ کی مخلصانہ دعوت و تبلیغ کے نتیجہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرک و بدعت سے ثراب سے جوے سے، زنا سے تائب ہو کر نیک صالح بن گئے، مساجد آباد ہوئیں، مکاتب و مدارس قائم ہوئے، اور سارے عالم میں آپ کی مخلصانہ دعوت و تبلیغ کا فیض پہنچا اور پہنچا جا رہا ہے۔

## حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے دعویٰ و تبلیغی کام کا آغاز

یہ بات بھی بہتوں کے علم میں ہو گی کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ انہیں دینی مدارس (منظارہ علوم سہارنپور، دارالعلوم دیوبند) کے پروردہ و تعلیم یافتہ اور انہیں خانقاہ کے مشائخ حضرت رائے پوری، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری وغیرہ کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ ہیں جن کے فیوض و برکات کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آپ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں تدریسی خدمات انجام دیتے تھے لیکن امت کی اصلاح کی طرف سے غافل نہ تھے۔

اس وقت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی اصلاحی و دعویٰ کو ششیں عروج پر تھیں، دعوت و تبلیغ کے تعلق سے آپ کے مسلسل اسفار بھی ہوتے تھے، اصلاحی مجالس کا سلسلہ بھی قائم تھا، ایک زمانہ میں کانپور کے علاقہ قصبه ”بُجیر ضلع کانپور“ میں ارتاد کی خبر سنی تو آپ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے، اور ان کو تبلیغ فرمائی، ایک عرصہ کے بعد ”آگرہ“ اور اس کے اطراف کے دیہی علاقوں میں فتنہ ارتاد رونما ہوا، اس کے لیے بھی آپ فکر مند ہوئے۔ چنانچہ اسی وقت عمومی پیمانہ پر آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قائم فرمایا، حالات اور ضرورت کے

مطابق ارتدازدہ علاقوں میں خصوصاً آگرہ اور اس کے اطراف میں آپ نے علماء و مبلغین کی جماعت روانہ فرمائی۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی دعوت و تبلیغ کے سلسلہ  
میں اس وقت جو کوششیں جاری تھیں اس میں پیش پیش بلکہ یوں کہئے کہ سرگرم رکن یہ بزرگ بھی تھے جن کو ہم مولانا محمد الیاس صاحب گاندھلوی سے یاد کرتے ہیں۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی تجویز کے مطابق آپ نے ارتدازدہ علاقوں میں  
وفد کے ساتھ دعویٰ و تبلیغی دورے فرمائے، سفر کی رواداد اور کارگزاری حضرت تھانویؒ کی  
خدمت میں لکھ کر بھیجی جاتی، حضرت تھانویؒ اس کے جواب میں ہمت افzaء کلمات اور  
دعاؤں سے ان کی تقویت فرماتے جس سے ان کے حوصلے اور بلند ہوتے۔

ماقبل میں اختصار کے ساتھ جو کچھ عرض کیا گیا اس کا اندازہ حکیم الامت حضرت  
مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کے ان خطوط سے کیا جا سکتا ہے جو آپ نے اس موقع پر  
کارگزاری سننے کے بعد اس وفد کے نام تحریر فرمائے تھے۔

## حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا خط

السلام علیکم ..... حالات سے بہت کچھ امیدیں ہوتیں،  
اور مجھ کو اس سے پہلے بھی صرف آپ جیسے مخلصین کا جانا اور پھر مولوی محمد  
الیاس صاحب کا ساتھ ہو جانا یقین کامیابی دلاتا تھا، علم غیب تحقق تعالیٰ  
کو ہے مگر اقبال شہادت دیتا ہے کہ انشاء اللہ سب وفود سے زیادہ نفع  
آپ صاحبوں سے ہوگا۔ اشرف علی

اس مضمون کے کئی خطوط اشرف السوانح میں منقول ہیں۔ (اشرف السوانح ۲۳۶/۳)  
حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی معیت میں اس وفد کا سفر "پلوں" اور قصبه  
"نوح"، وغیرہ کا بھی ہوا، اور بہت کامیاب سفر ہا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی

تحانویؒ کی زیر نگرانی و حسب ایماء، تبلیغی و فدکی محنت کا سلسلہ تقریباً دو سال تک اسی علاقہ و اطراف میں جاری رہا، اسی موقع پر اردو ہندی میں مختلف تبلیغی رسائل بھی تصنیف کر کر تقسیم کرائے گئے اور مکاتب و مدارس کے قیام کی مہم چلائی گئی، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ اشرف السوانح ۳۲۱ تا ۲۳۰ رسمی میں دعوت و تبلیغ سے متعلق اہم مضامین ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو خصوصاً ذمہ داروں کو اس کا مطالعہ کرنا انشاء اللہ بہت مفید ثابت ہوگا۔

حضرت مولانا محمد ثانی حسنی مظاہری اپنی کتاب ”حیات خلیل“ میں تحریر فرماتے ہیں:

۱۳۲۱ھ میں جب راجپوتانہ اور آگرہ سے ارتداد کی خبریں آنی شروع ہوئیں تو حضرت تحانویؒ کو اس کی فکر ہوئی اور انہوں نے وفوڈ بھیجنے شروع کئے، مظاہر علوم سے حضرت مولانا کے تلامذہ اور متعلقین جن پر آپ کو اطمینان تھا، اس مبارک کام کے لیے منتخب ہوئے۔ جن میں مولانا اسعد اللہ صاحب مظلہ، مولانا عبدالکریم مکتھلوی اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی جو حضرت مولانا (خلیل احمد صاحب سہارنپوری) ہی سے مجاز تھے۔ قابل ذکر ہیں..... اس سلسلہ میں حضرت تحانویؒ اور مولانا محمد الیاس صاحب کی انہک محتنوں اور کوششوں نے بڑا کام انجام دیا۔

(حیات خلیل ص: ۲۳۰)

دعوت و تبلیغ کے سلسلہ سے مسلک ہونے اور امت کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے محسوس فرمایا تھا کہ امت کے ایمان کی بقاء و تحفظ اور شعائر اسلام کی حفاظت کے لیے اس سے زیادہ وسیع اور عمومی پیمانہ پر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ اسی فکر کے ساتھ عمومی پیمانہ پر آپ نے اس کام کو شروع کر دیا، اور مرکز نظام الدین کو آپ نے اپنے اس کام کا مرکز بنایا، اور ابتداء میں میوات اور اس کے اطراف کے لوگوں کو اپنی دعوت و تبلیغ کی محنت کا میدان بنایا، اور دعوت و تبلیغ کے اس

کام کے ساتھ آپ نے دینی مدارس کے علماء اور خانقاہوں کے مشائخ سے بھی گھر اربط رکھا، مدارس اور خانقاہ میں حاضری کو اپنے معمولات میں شامل فرمایا۔ حکیم الامت حضرت تھانویؒ اور ان کی تعلیمات و تصنیفات سے خصوصی ربط رکھا اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ:

”مولانا تھانویؒ نے بہت بڑا کام کیا ہے لب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے، مولانا تھانویؒ کے لوگوں کی مجھے بہت قدر ہے۔“

(ملفوظات مولانا محمد الیاس ص: ۵۸، ملفوظ نمبر: ۵۶)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب کے انتقال کے موقع پر ارشاد فرمایا:

میرا جی چاہتا ہے کہ اس وقت حضرت کے تمام تعلق رکھنے والوں کی تعزیت کی جائے اور خاص طور پر یہ مضمون آج کل پھیلا یا جائے کہ حضرت رحمۃ اللہ کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس ص: ۲۸، ملفوظ نمبر: ۵)

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اپنے دعویٰ و تبلیغی نصاب میں جن کتابوں سے استفادہ کو اہمیت واولیت دی ہے اور تہائی میں اور مجمع میں بھی جن کو بار بار پڑھنے کی ہدایت و تاکید فرمائی ان میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی اہم کتاب ”جزاء الاعمال“ کا خاص طور پر تذکرہ کیا، ملاحظہ ہو مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص: ۵۳۔

دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس دعویٰ و تبلیغی کام کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ تمام دینی مدارس اور ان کے نظماء و مہتممین، اہل علم و ارباب افقاء نے بھی ان کی بات پر لبیک کہا، دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد،

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نیز دوسرے اداروں نے بھی آپ کی اس دعوتی تحریک کو ہاتھوں ہاتھ لیا، علماء کی جماعت مرکز نظام الدین میں نظر آنے لگی، اہل خانقاہ اور مشائخ کے ذکر کی صدائیں مرکز نظام الدین کی فضائیں گونجنے لگیں، اکابر علماء ہند مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ، مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی، مولانا محمد منظور صاحب نعمانی، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب وغیرہ مرکز نظام الدین کی رونق بنے ہوئے تھے، کبار علماء و مشائخ اور مرکزی دینی مدارس نے آپ کے اس دعوتی کام کو سمجھا، اور قبول کیا، اور امت میں اس کو پھیلایا، بعد کے اکابر مشائخ حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب باندویؒ حضرت مولانا شاہ ابراہیم حق صاحب وغیرہ نے اس کام کی نہ صرف تائید فرمائی بلکہ عملی طور پر اس میں حصہ لیتے رہے، اور الحمد للہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور انشاء اللہ جاری رہے گا۔

## حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی ایک بڑی فکر

اخیر زمانہ میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کو بڑی فکر تھی کہ اس کام کو سمجھنے اور سنن جانے والے حضرات اہل علم آئیں اور اس کام کی ذمہ داری قبول کر لیں، چنانچہ اخیر زمانہ میں مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا ظفر احمد صاحب تھانویؒ نے کافی وقت مرکز نظام الدین میں گزارا اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے ارشادات اور ان کی دی ہوئی ہدایات کو انہوں نے اچھی طرح سمجھا اور محفوظ رکھا، خصوصاً مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد منظور نعمانی نے آپ کے مکتوبات و ارشادات کو جمع کر کے شائع کیا۔

اخیر میں جناب افتخار احمد صاحب فریدی نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے جتنے ارشادات و مکتوبات ناقص و کامل، مختصر و مطول جس شکل میں ان کوں سکے سب کو جمع فرمادیا جو ”ارشادات و مکتوبات مولانا محمد الیاس صاحبؒ“ کے نام سے شائع شدہ ہیں۔

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ نے ”حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت“ کتاب میں اس تحریک کی پوری تاریخ و تفصیل ذکر فرمائی ہے، جس میں علامہ سید سلیمان ندویؒ کا بصیرت افروز مفصل مقدمہ بھی ہے، جس سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی جامعیت اور اس کا مامکنہ اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

**مولانا محمد الیاسؒ کی جامعیت اور دعوت و تبلیغ کی اہمیت سے**

### **متعلق علامہ سید سلیمانؒ ندویؒ کا مختصر مضمون**

علامہ سید سلیمان ندویؒ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کے تعلق سے (جس کو مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اپنا اور حصنا بچھونا بنالیا تھا) تحریر فرماتے ہیں:

”حکیمانہ تبلیغ و دعوت امر بالمعروف نہیں عن امنکر اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس پر اسلام کی بنیاد اسلام کی قوت، اسلام کی وسعت اور اسلام کی کامیابی مختصر ہے، اور آج سب زمانوں سے بڑھ کر ضرورت ہے اور غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان، نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان اور قومی مسلمانوں کو دینی مسلمان بنانا ہے۔“ (دینی دعوت ص: ۲۶)

علامہ سید سلیمان ندویؒ نے ہندوستان کی اسلامی و دینی تاریخ کے تعلق سے امت مسلمہ ہندیہ پر خصوصاً آخری دور میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ کے خانوادہ کی اصلاحی و دعوتی کوششوں کا اور امت مسلمہ ہندیہ پران کے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا ندھلویؒ کو اور آپ کی اس دعوتی جدوجہد کو بھی اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی قرار دیا ہے، چنانچہ اکابر ہند کی جامعیت کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”ہندوستان میں جن بزرگوں کے دم قدم سے اسلام کی روشنی

پھیلی وہ حقیقت میں وہی تھے جن کی ذات میں مدرسہ اور خانقاہ کے کمالات کی جامعیت تھی کہ وہ اسوہ نبوت کے قریب تر تھے، اس لیے ان کا فیض بعید سے بعید تر حصہ تک پھیلتا چلا گیا، آسمان دلی کے مہر و ماہ اور تارے شاہ عبدالرحیم صاحب<sup>ؒ</sup> سے لے کر شاہ اسماعیل<sup>ؒ</sup> تک کوآ پ ایک ایک کر کے دیکھیں تو ظاہر و باطن کے علوم والوں کی یکجاںی کا ناظراہ آپ کو ہو گا اور اس سے ان کے علمی و روحانی برکات کی وسعت کی حقیقت آشکارا ہو جائے گی، وہ علوم کی تدریس کے وقت **يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ** کا جلوہ دکھاتے تھے اور جگروں میں بیٹھ کر **يُؤْتِيْهُمْ** کی جلوہ ریزی فرماتے تھے۔

دین کی اشاعت و تبلیغ اور قلوب و نفوس کے تزکیہ و تصفیہ کا جو کام انجام پایا وہ بھی ظاہر و باطن کی اسی جامعیت کے آئینہ دار تھے اور آئندہ بھی سنن الہیہ کے مطابق دین کا فیض جن سے پہلی گاہ وہ وہی ہوں گے جن کے اندر مدرسیت اور خانقاہیت کی دوسوئیں ایک چشمہ بن کر بھیں گی، **مَرَاجِ الْبُحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ**، آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا اور زبان کی تاثیر ذکر کی کثرت سے پھیلتی ہے، رات کے راہب ہی اسلام میں دن کے سپاہی ثابت ہوتے ہیں، سوانح و تراجم کا سیزده صد سالہ دفتر اس دعویٰ کا شاہد ہے۔

(مقدمہ حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت ص: ۲۲، از علامہ سید سلیمان ندوی<sup>ؒ</sup>)

بلاشبہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> انہیں جامع صفات کے حامل اور امین تھے، اور ان کی اس جامعیت و اخلاص ہی نے ان کی دعوتی و تبلیغی تحریک کو اس درجہ مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی۔

## حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے مفہومات و مکتوبات کی اہمیت

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:

”بزرگوں کے مفہومات اور ان کی مجالس کے قلم بند کرنے کا سلسلہ ہندوستان میں بہت قدیم ہے، یہ ایک بڑا مبارک اور نہایت دانشمندانہ تصنیفی اقدام تھا، ان مفہومات و مجالس میں جوزندگی و بے ساختگی پائی جاتی ہے وہ قدرتی طور پر علمی تصنیفات اور عام تحریریات میں نہیں ملتی ..... ان سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے اس کی توقع بھی لگے بند ہے طریقے پر کاھی ہوئی کتابوں سے نہیں کی جاسکتی۔

(پیش لفظ صحیحے باہل دل ص: ۵۶)

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے مکتوبات جن کو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے جمع فرمایا تھا ان کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”جمع ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ نہ صرف دعوت کے اصول و آداب اور اس کی روح و ضوابط کے لحاظ سے بلکہ اپنے بلند مضامین اور دینی حقوق کے لحاظ سے بھی یہ ایک گرانقدر ذخیرہ ہے۔

بعض احباب اور بزرگوں نے اس مجموعہ کے اشاعت کی تحریک کی، ان کی رائے میں اس سے اس سلسلہ کی تکمیل ہوتی ہے، جو سوانح اور مفہومات سے شروع ہوا ہے بلکہ یہ مجموعہ اس سلسلہ کی سب سے زیادہ قیمتی اور قابل اعتماد چیز ہے کیونکہ یہ براہ راست مولانا کے الفاظ اور تعبیرات ہیں، اور ان مضامین اور صاحب مضامین کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔

اس مجموعہ کی اشاعت ان اصحاب کے لیے بڑی مفید اور باعث تقویت ہوگی جو دعوت کے کام میں مشغول ہیں اور اس سے مناسبت رکھتے ہیں، ان خطوط سے ان کی ہمتیں بلند ہوں گی، ان کی نگاہوں میں

دعوت کی قیمت و اہمیت بڑھے گی، اس کا صحیح موضوع اور مقصد معلوم ہوگا، بہت سی غلطیوں اور کوتاہیوں پر تنہی ہوگا اور اس کے بہت سے اصول و آداب معلوم ہوں گے۔

(مقدمہ مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۵-۷، ازمولانا سید ابو الحسن علی ندوی)

حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی شخصیت اور آپ کے ارشادات و مفہومات کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”مولانا مرحوم اپنی دعوت و تحریک کے متعلق کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ ”قرن اول کا ہیرا ہے“ مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی مبالغہ محسوس نہیں ہوتا کہ مولانا خود اس چودھویں صدی میں قرن اول کے خزانۂ عامرہ کا ایک موئی تھے۔ اگر کوئی چیز کسی کا کچھ صحیح تصور قائم کر سکتی ہے اور اس کو کسی حد تک اس کی صحیح شکل میں پیش کر سکتی ہے تو وہ صرف واقعات یا اس کی اپنی تحریریں (خصوصاً خطوط) اور اس کی روزمرہ کی بے تکلف گفتگو ہے۔“

(مقدمہ مولانا محمد الیاس کی دینی دعوت ص: ۳۲-۳۸، ازمولانا محمد منظور نعمانی)

نیز تحریر فرماتے ہیں:

”دعوت کے اصول اور اس کی روح کے تحفظ کی طرف اس تحریک سے خاص تعلق رکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلہ میں کچھ رہنمائی اور نشاندہی اس مجموعہ مفہومات سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔“

(مقدمہ مفہومات مولانا محمد الیاس صاحبؒ، ازمولانا محمد منظور نعمانی ص: ۱۱)

ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں:

”اس قسط کے تمام مفہومات اس دینی تحریک و دعوت ہی سے متعلق ہیں، جس میں حضرت فنا تھے، اس دعوت کے کارکنوں کو بہت غور

سے ان ملفوظات کو پڑھنا چاہئے،۔

(مقدمہ ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ح</sup>، ص: ۳۲، قسط: ۳)

خود حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ح</sup> کو بھی دعوت و تبلیغ کے تعلق سے اپنے ارشادات و ملفوظات کی بڑی اہمیت تھی آپ جو کچھ بولتے تھے دعوت و تبلیغ کے اصول و آداب اور ہدایات ہی کے تعلق سے بولتے تھے، چنانچہ ایک موقع پر آپ نے خود ارشاد فرمایا:

”ہمارے اس کام کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے یہاں آ کر چند روز قیام کیا جائے..... جس وقت میں خود کچھ کہوں اس کو سن لیا جائے،۔ (مختصر)

(مقدمہ ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ح</sup>، ص: ۸۵، ملفوظ نمبر: ۱۰۳)

آخر عمر میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی<sup>ح</sup> سے فرمایا:

”تم میرے پاس رہتے میں تم سے دل کی بات کرتا رہتا تم دوسروں کو پہنچا دیتے، اس طرح میرے دل کا کائنات نکل جاتا، تم میرے پاس رہو، میری باتوں کو سنتے رہو، اور دوسروں کو پہنچاؤ، تاکہ مجھے کسی سے خطاب نہ کرنا پڑے، بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تجھ کو بولنے نہ دیں گے، مگر جب تک میرے دل کا کائنات نہ نکل جائے میں کیسے چپ ہو جاؤں، میں ہرگز چپ نہ رہوں گا چاہے مر جاؤں“۔

(مقدمہ ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ح</sup>، ص: ۵۸، ملفوظ نمبر: ۵۵)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ح</sup> کو دعوت و تبلیغ کے تعلق سے دی جانے والی ہدایات و اصلاحات کا کس درجہ اہتمام تھا، اور خود آپ کے نزدیک آپ کی دی ہوئی ہدایات اور آپ کے فرمودات کی کتنی اہمیت تھی کہ کبار علماء سے خود فرمار ہے ہیں کہ میں جو کچھ کہوں اس کو غور سے سنو، اور دوسرے کام کرنے والوں تک پہنچا دو، آپ جو بولتے تھے سوچ سمجھ کر بولتے تھے، حق سمجھ کر بیان فرماتے یا لکھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ جزاً خیر دے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانویؒ، مولانا محمد منظور صاحب نعمانی اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ کو کہ انہوں نے براہ راست حضرت سے سُنی ہوئی باتوں اور تحریروں کو جمع فرمادیا، اور آخر میں جناب افتخار فریدی صاحب نے تمام ملفوظات و مکتوبات جو بھی ان کو دستیاب ہو سکے سب کو ”ارشادات و مکتوبات بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاسؒ“ کے نام سے جمع فرمادیا۔

احقر نے مخدومی حضرت مولانا سید محمد رالمع حسني دامت برکاتہم (جن کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی مجلس میں شرکت اور براہ راست استفادہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے، نیز اصحاب تبلیغ سابقین اولین اور دیگر مصنفوں سے پوری واقفیت رکھتے ہیں) سے دریافت کیا کہ جناب افتخار فریدی صاحب کا مرتب کردہ مجموعہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے ملفوظات و مکتوبات پر مشتمل ہے، صحیح اور قابل اعتماد ہے؟ احقر کچھ کام کرہا ہے اس کے مضامین لینے میں کوئی حرج تو نہیں؟ حضرت والا نے اس پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے اس کے مضامین کو لینے میں کوئی حرج نہیں بتایا، اور یہ بھی فرمایا، میں تو اس کو صحیح اور قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔

## حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے ملفوظات و مکتوبات پر کام کرنے

### اور ان کو عام کرنے کی ضرورت

اس اللہ کے مقبول اور مخلص بندہ نے بشری خطاؤں اور لغزشوں سے معصوم نہ ہونے کے باوجود اپنی عقل و فہم کے مطابق قرآن و حدیث اور سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کی لائیں سے امت کے حق میں جو کچھ حق اور خیر سمجھا اور جہاں تک ان کے فہم نے رسائی کی مفید باتوں کو بیان کیا اور الدین النصیحة کے تحت تمام کام کرنے والوں کے لیے رہبری و رہنمائی فرمائی اور ساتھ ہی یہ وصیت بھی فرمادی کہ

میری یہ ہدایت دوسرے کام کرنے والوں تک بھی پہنچادی جائیں، الحمد للہ ان کے اخلاف اور جانشینوں نے پوری دیانت داری کے ساتھ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی ان ہدایات کو جو ملفوظات و مکتوبات کی شکل میں ہیں کتابوں کی شکل میں محفوظ کر کے کام کرنے والوں تک پہنچادیا۔

اب دعوت و تبلیغ سے مسلک کام کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے ان ارشادات و ہدایات کو قدم قدم پر پیش نظر رکھیں اور ان سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ کام اعتدال کے ساتھ چلتا رہے اور افراط و تفریط اور غلو سے محفوظ رہے، لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ دعوت و تبلیغ سے مسلک لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں برسہا برس سے لگے ہوئے حضرات کو بھی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی ان ہدایات کا علم نہیں۔

حضرت کی ان ہدایات اور تعلیمات میں اس کام کی غرض و عایت اور اس کا اصل مقصد نیز کام کرنے کے تعلق سے ضروری باتیں معلوم ہوتی ہیں، آپ اس کام سے کیا چاہتے تھے، آئندہ کے لیے آپ کے کیا عزم تھے، مدارس و مکاتب اور علماء و فقهاء کے تعلق سے آپ کی کیا ہدایات ہیں، بزرگان دین و مشائخ اور خانقاہ و تصوف کے متعلق آپ کی کیا نصیحتیں ہیں، اسی طرح امراء و رؤسائے کے لیے آپ کی کیا تعلیمات ہیں، اس کام کو آپ کس درجہ تک پہنچانا چاہتے اور کس حد تک لے جانا چاہتے تھے، زبان و تقریر کے علاوہ تحریر و تصنیف اور دینی جلسوں سے کس طرح آپ تبلیغ کرنا چاہتے تھے، دارالاقاء و دارالقصاء اور شرعی پنچایت کے تعلق سے آپ کے کیا نظریات تھے، مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کے کیا منصوبے تھے، ایمان و یقین بنانے کے ساتھ اصلاح اعمال و اخلاق اور اصلاح معاشرہ و تزکیہ باطن کے تعلق سے آپ کی کیا ہدایات ہیں، علماء و مشائخ کے تعلق سے نیز مدارس و خانقاہوں کے

متعلق آپ نے اپنے تمام تبلیغی احباب اور دعوت و تبلیغ سے مسلک حضرات کو کیا ضروری ہدایات و تنبیہات فرمائی ہیں۔

یہ اور اس طرح کی بے شمار ہدایات، اصلاحات و تنبیہات ہیں، جو آپ کے ملفوظات و مکتوبات میں منتشر طور پر جمع ہیں، لیکن بڑی تعداد میں پرانے لگے ہوئے حضرات کے پیش نظر وہ ہدایات نہیں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی ان ہدایات کے پیش نظر نہ ہونے اور اس کے مطابق عمل نہ کرنے کے نتیجہ میں جن نقصانات کے خطرات تھے وہ پیش آنے لگے، اور نوبت یہاں تک آپنے کام را اعتماد سے ہٹ کر افراط اور غلو کے دائرہ میں آنے لگا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے جس نجح پر کام کواٹھایا تھا اس کے نتیجہ میں امت کے مختلف طبقات اس کام سے جڑتے چلے جا رہے تھے، عوام کا علماء اور مشائخ سے تعلق قوی اور مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا، بعد قرب سے اور نفرت انس سے تبدیل ہوتی نظر آ رہی تھی، عوام الناس کی زنگا ہوں میں علماء و فقہاء اور مدارس و خانقاہوں کی قدرو منزالت بڑھتی چلی جا رہی تھی، وہ اپنے کو علماء و مشائخ کا احتیاج سمجھتے تھے اور اہل علم و اہل مدارس بھی اس تبلیغی کام سے مطمئن اور جڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی ہدایات پیش نظر نہ ہونے کے نتیجہ میں، اب معاملہ بالکل بر عکس ہو رہا ہے، علماء اور اہل مدارس سے لوگوں کا استغفاء، دوری اور بیزاری بڑھتی جا رہی ہے، بجائے قرب کے بعد اور بجائے انس کے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت سے علماء اور اہل مدارس غیر مطمئن ہو کر نہایت شاکی اور اس کام سے اور کام کرنے والوں سے دوری اختیار کرنے کی فکر میں ہیں، دینی مدارس اور خانقاہوں کی جو اہمیت ان کے دلوں میں بھائی گئی تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کام کرنے والے افراد تیزی سے غلو کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگر اس کی اصلاح کی طرف فوری توجہ نہ کی گئی، تو نہ معلوم نوبت کہاں تک پہنچے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اور جانشین علماء ربانیین ہی کو فرمایا ہے، اور نائبین رسول ہی سے نفرت و دوری اور انہیں سے رستا کشی کی نوبت آ جائے تو پھر خیر کی توقع کہاں؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔

ان حالات کے پیش نظر شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی ان ہدایات و تعلیمات اور تنبیہات کو جوانہوں نے اس کام کے تعلق سے کام کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں آسان اسلوب میں سیکھا اور مرتب کر کے کام کرنے والوں کی خدمت میں پیش کردی جائیں، تاکہ کام کرنے والے حضرات ان ہدایات کے مطابق ہی کام کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں۔

حضرتؒ کی وہ ہدایات اور تعلیمات مختلف کتابوں میں منتشر ہیں، احقر کے پیش نظر اس وقت پانچ مجموعے ہیں۔

(۱) ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحبؒ جس میں مولانا محمد منظور نعمانی اور مولانا ظفر احمد تھانویؒ کے جمع کئے ہوئے ملفوظات ہیں۔

(۲) مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب جس کو حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے جمع فرمایا ہے، اور اس کے اکثر خطوط حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کے نام ہی لکھے ہوئے ہیں۔

(۳) حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت، یہ بھی حضرت مولانا علی میاں صاحبؒ کی تصنیف ہے اس میں درمیان کتاب مختلف مقامات میں مولانا محمد الیاسؒ کی ہدایات جمع ہیں۔

(۴) جناب افتخار فریدی صاحب کا جمع کردہ مجموعہ جس میں انہوں نے ان تمام ملفوظات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جو کسی بھی شکل میں ان کو معتبر ذرائع سے دستیاب ہو سکے۔

(۵) مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلویؒ کی کتاب ”اسلام کا تبلیغی و اصلاحی نظام“، جس کے مقدمہ میں مولانا سید محمد رابع حسني صاحب مدظلہ تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت مولانا محمد احتشام الحسن کاندھلویؒ نے شروع سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے مولانا

محمد الیاس صاحبؒ کا ساتھ دیا، وہ ایک اچھے عالم و مصنف بھی تھے، ان کی کتابیں شائع بھی ہوئی ہیں، جن میں بعض اہم کتابیں خود مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی لکھائی ہوئی ہیں، ان کے مسودات میں ایک اہم مسودہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے شروع کردہ اسی دعوتی کام کے متعلق بھی نکل آیا کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، اور اس کی ارتقائی منزلیں کیا رہیں، اور اس کا نقشہ اور اصول کیسے مرتب ہوئے، اس اعتبار سے ان کا یہ مسودہ بڑی اہمیت کا حامل ثابت ہوا۔

یہ کتاب ایک دستاویز کی شکل رکھتی ہے، اور اس سے کام کا اولین نقشہ سامنے آتا ہے، یہ اس کام کے سلسلہ میں رہنماء اور مرجع کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اس سے کام کو اس کے صحیح لاکینوں پر قائم رکھنے میں رہنمائی ملتی ہے..... اس سے اہل علم کو اور دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کو مفید رہنمائی حاصل ہوگی، (اسلام کا تبلیغی و اصلاحی نظام ص: ۹)

اس اہم کتاب سے بھی مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی ہدایات اخذ کی گئی ہیں۔

احقر کے پیش نظر یہ پانچوں مجموعے ہیں جن میں حضرتؐ کی مختلف ہدایتیں منتشر طور پر موجود ہیں، احرقر نے سہولت و آسانی کے لیے یہ کام کیا کہ حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی ہدایتوں اور تعلیمات کو اس انداز سے مرتب کیا جس سے استفادہ اور نصیحت حاصل کرنا آسان ہو جائے، مثلاً اس دعوت و تبلیغ کی اہمیت، غرض و غایت اور موضوع سے متعلق حضرتؐ کے جتنے ارشادات اور اس سلسلہ کی جتنی تعلیمات تھیں سب ایک ساتھ کر دیں، اور ان میں صرف عنوانات کا اضافہ احرقر نے اپنی طرف سے کیا باقی حضرتؐ کی عبارت کو آپؐ ہی کے الفاظ میں من و عن باقی رکھا، اور مثلاً دعوت و تبلیغ کے اصول و آداب اور کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہدایات و نصائح، اس سلسلہ کے جتنے ارشادات تھے وہ سب یکجا کر دیئے، اسی طرح علماء و مشائخ اور مدارس و مکاتب کے تعلق

سے آپ نے اپنے کام کرنے والوں کو جو ہدایتیں دیں وہ بھی ایک ساتھ کر دیں، نیز روساء و اغذیاء کے لیے آپ کی جو خصوصی ہدایات تھیں وہ علیحدہ مرتب کر دیں، اسی طرح تضوف و ترکیہ اور مشائخ سے متعلق آپ کی جتنی ہدایات تھیں ان کو بھی سیکھا اور مرتب کر دیا اور ساتھ ہی ان میں عنادین کا اضافہ کر دیا۔

نیز بہت سے کام جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کی زندگی میں اس کا موقع نہ آسکا، اسی طرح بہت سے پرانے کام کرنے والوں کو جن خاص کاموں کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ اب ان کاموں کو بھی کرنا ہے اس نوع کی ساری باتوں کو بھی علیحدہ مرتب و سیکھا کر دیا۔

انتخاب و ترتیب کا اسی نوعیت کا کام احرف اس سے قبل حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کے افادات پر بھی کرچکا ہے جس کی تقریباً سو عدد تک کتابیں مختلف موضوعات سے متعلق مرتب ہو چکی ہیں، اور ہندو پاک میں برابر ان کی اشاعت ہو رہی ہے، الحمد للہ اکابر علماء ہند مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مولانا سید صدیق احمد صاحب باندرویؒ، مولانا شاہ ابرار الحق صاحب وغیرہم نے بنظر احسان اس کو دیکھا اور اس کام پر اعتماد اور خوشی کا اظہار کیا، شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتہم نے احرف سے فرمایا کہ اللہ نے حسن ترتیب سے کام کرنے کا اچھا سلیقہ تم کو دیا ہے، میرے پچاس سالہ علمی خطوط کے جوابات ہیں، ان کی بھی ترتیب دے دو، الحمد للہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ کام بھی پورا ہوا، جو نوادر الحدیث اور نوادر الفقہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔

اسی نجح پر شدید ضرورت کی بناء پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے افادات، ملفوظات مکتوبات پر اللہ کی توفیق سے انتخاب و ترتیب کا یہ کام بھی ہے، جو آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے اور امت کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔

الحمد للہ پورا کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جو تقریباً پانچ چھ سو سے زائد صفحات پر مشتمل ہو گا، خمامت سے بچتے ہوئے اور آسانی کے پیش نظر بہتر معلوم ہوا کہ ہر ہر موضوع سے متعلق

علیحدہ علیحدہ رسالہ کی شکل میں شائع کیا جائے یعنی ایک ایک موضوع سے متعلق حضرت کی ہدایات و تعلیمات علیحدہ علیحدہ شائع کی جائیں تاکہ ان کا خریدنا، ساتھ رکھنا، اور استفادہ کرنا آسان ہو لیکن کام کرنے والوں کو حضرت کی ساری ہی ہدایات کو بار بار بغور پڑھنا چاہئے۔

ضرورت و حالات اور اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے اس رسالہ کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس میں دعوت و تبلیغ سے لگے ہوئے حضرات کے لیے حضرت کی خصوصی ہدایات ہیں کہ کارکنان تبلیغ ان کاموں کی طرف خصوصی توجہ دیں، اس کے بعد انشاء اللہ و سرے رسائل شائع کئے جائیں گے۔

حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے بہت سے ملفوظات و ارشادات ایسے ہیں جو نہایت مختصر و محمل متناج تشریح و توضیح ہیں، ان کے نقل کرنے میں احرقر کوتر درہا کہ ان کو اگر نقل کیا جائے تو خاص طبقہ کے علاوہ ان مغلق، مبهم و مختصر جملوں کا مطلب کوئی سمجھ سکے گا، نیز بہت سے آپ کے ارشادات اصولی اور کلی انداز میں علمی و عربی اصطلاحات کے مطابق تھے، جو غیر علماء کی فہم سے بالاتر تھے، اگر ان ملفوظات کو حذف کر دیا جاتا تو بہت سی ہدایات اور رہنمائیوں سے محرومی ہو جاتی، اس لیے اس کے علاوہ اس کی کوئی شکل نہ تھی کہ حضرتؒ کے ایسے ارشادات کو بھی حضرت ہی کے الفاظ میں من و عن باقی رکھا جائے، اور فائدہ کے تحت علیحدہ سے مستقلًا اس کی تشریح و توضیح کر دی جائے، چنانچہ بکثرت ملفوظات میں بڑوں سے مشورہ کے بعد احرقر نے ایسا ہی کیا ہے تاکہ پوری بات سمجھ میں آسکے، اگرچہ ان فوائد و تشریحات کے لکھنے میں احرقر کو اپنی نا، اہلی اور کم علمی کی وجہ سے تر درہا کہ مجھ سے کہیں غلط ترجمانی اور نامناسب تشریح نہ ہو جائے لیکن اکابر کے حسن ظن اور ان کے اعتقاد و ایماء کی بنابر تو کلًا علی اللہ اس کام کو کیا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب نے اس کی تائید فرمائی، اور اس سے قبل حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحبؒ باندوی، حضرت مولانا شاہ ابرار الحسینؒ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ بھی اسی نوع

کے علمی و اصلاحی کاموں کے تعلق سے اعتماد ظاہر فرمائے چکے ہیں۔ اس لیے اپنی ناہلی کے باوجود اکابر کے حسن ظن اور اعتماد کی بنابر احقر نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے ارشادات پر حوالشی اور فوائد کا اضافہ جہاں ضرورت سمجھی کیا ہے، جس میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ حضرتؐ کی مراد و مقصود سے ہٹ کر کوئی بات نہ عرض کروں، نیز محتاج تاویل و توجیہ ارشادات کی اصول کی روشنی میں توجیہ و تاویل کروں، مجمل و مہم مفہومات کی اس انداز سے تشریح کروں کہ کوئی بات اہل سنت و اجماعت کے مسلک سے ہٹ کرنے ہو اور حضرت کے فرمان کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آجائے۔

اب یہ مجموعہ اور امانت آپ کی خدمت میں ہے اگر مجھ سے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، قارئین کرام سے گزارش ہے کہ کوئی غلط بات سمجھ میں آئے تو مجھے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جاسکے۔

احقر کے بس میں جو تھا وہ اللہ کی توفیق سے کیا آگے دوسرے حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؐ کی ان ہدایات و تعلیمات کو عمومی انداز میں مختلف زبانوں میں شائع کرا کر کام کرنے والوں کے ہاتھوں میں پہنچائیں کہ جس طرح دعوت و تبلیغ کا یہ کام عام ہو گیا ہے اسی طرح آپ کی یہ ہدایات (جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں) یہ بھی عام ہو جائیں۔

کام کرنے والے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان ہدایات و تعلیمات کے مطابق ہی کام کریں تاکہ یہ کام صدیوں تک اعتدال سے چلتا رہے اور افراط و تفریط اور غلو سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے اور پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے نافع اور ہدایت کا ذریعہ بنائے آئیں۔

محمد زید مظاہری، ندوی

استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ  
۶ رشووال ۱۴۳۵ھ



کارکنانِ تبلیغ کے لیے  
مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی  
مفید باتیں اور اہم ہدایات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد الأنبياء  
والمرسلين محمد وعلى الله وأصحابه أجمعين

## باب (۱)

**حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے مکاتیب و ارشادات**

### اور مشوروں کی اہمیت

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں: مشائخ و بزرگانِ دین اور علماء و مصلحین کے مکاتیب و رسائل کے مجموعے قدیم زمانہ سے پائے جاتے ہیں، یہ خطوط ان کے دلی جذبات اور اصلی خیالات کا آئینہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ مجموعے ان کے صحیح حالات و خیالات اور ان کی دعوت و تحریک کے اصلی حرکات معلوم کرنے کا ان کی سوانح و سیر کے مقابلہ میں زیادہ مستند ذریعہ سمجھے جاتے ہیں، اس لئے کہ سوانح اور سیر تین دوسرے اشخاص کی مرتب کی ہوئی ہوتی ہیں اور ان میں ان کے مصنفین کے ذوق و رجحان کا اچھا خاص اداخل ہوتا ہے، کم از کم تر جانی اور استنباط تمام تر مصنفین کی طرف سے ہوتا ہے، اور اپنے ذوق و رجحان سے بالکل آزاد اور مجرد ہونا نہایت مشکل بات ہے۔

میرے برادر محترم مولوی حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحبؒ نے (مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے) ان سب خطوط کو ایک مجموعہ میں جمع کروادیا، جمع ہونے کے بعد معلوم

ہوا کہ نہ صرف دعوت کے اصول و آداب اور اس کی روح و ضوابط کے لحاظ سے بلکہ اپنے بلند مضامین اور دینی حلقہ کے لحاظ سے بھی یہ گرانقدر ذخیرہ ہے۔

طویل تذبذب اور کشکش کے بعد یہ خیال ہوا کہ اس مجموعہ کی اشاعت ان اصحاب کے لئے بڑی مفید اور باعث تقویت ہو گی جو دعوت کے کام میں مشغول ہیں، اور اس سے مناسبت رکھتے ہیں، ان خطوط سے ان کی ہمتیں بلند ہوں گی، ان کی نگاہوں میں دعوت کی قیمت و اہمیت بڑھے گی، اس کا صحیح موضوع اور مقصد معلوم ہو گا، بہت سی غلطیوں اور کوتاہیوں پر تنہہ ہو گا، اور اس کے بہت سے اصول و آداب معلوم ہوں گے، بہت ممکن ہے کہ اس کی اشاعت کسی اہل کے لئے عمل کا محرك یا اس کی تقویت کا باعث بن جائے، اور اس طرح کسی نااہل کی بے عملی اور پست ہمیتی کا کفارہ اور جبر نقصان ہو جائے۔

ابوالحسن علی

لکھنؤ۱۳۰۱/ صفر ۲۷۱۴ھ

(ماخذ از مقدمہ مکاتیب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس، ص ۳، مطبوعہ دہلی)

## تبلیغی امور سے متعلق مشورہ کے ذریعہ مشکلات کا حل اور

### سوالات کے جوابات دینے کا خاص اهتمام

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:

(حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی) تاکید تھی کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد آئی ہوئی تبلیغی ڈاک مجع کو سنائی جائے، حاضرین سے جواب کے لئے مشورہ لیا جائے، وہ مسائل و حالات جو خطوط میں درج ہیں حاضرین کے سامنے پیش کئے جائیں اور ان پر ان سے مشورہ لیا جائے، ڈاک پیش کرنے سے پہلے ایک مختصر تقریر کرنی ہوتی تھی کہ یہ ڈاک اس لئے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تاکہ آپ ان حالات و مسائل پر غور

کریں، اور دینی باتوں پر غور کرنے کی عادت ڈالیں۔  
ان خطوط میں اکثر وہ باتیں ہوتیں جن پر دہلی و میوات کے تجربہ کار مبلغین کے مشورہ کی ضرورت ہوتی، اور ان کی باہمی گفتگو اور تبادلہ خیال سے وہ مسائل طے ہوتے، کہیں کام کی مشکلات کا ذکر ہوتا، یہ حضرات اپنے تجربہ سے ان کا حل پیش کرتے، کہیں اپنے طریق کار کی تفصیل ہوتی، اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی جس کی وجہ سے فتنیں پیش آ رہی ہوتیں تو اس پر متنبہ کرتے۔

ابتداء میں یہ خطوط مولانا کی موجودگی میں پیش کئے جاتے، لیکن عموماً مولانا کو بولنا پڑتا جس سے ضعف و قعہ بڑھ جاتا، اس لئے اخیر میں کچھ فاصلہ سے یہ مشورہ ہوتا، یہ خدمت اس عاجز کے سپردھی، دن میں کسی وقت حاضری کا موقع ہوتا تو دریافت فرماتے کہ آج ڈاک میں کیا تھا، اور جمیع نے کیا طے کیا؟، غلطیوں کی اصلاح اور اپنی رائے کا اظہار فرماتے، پھر وہ دوسرے روز جمیع کو سنائی جاتیں، اس طرح گویا مولانا اپنے بعد کام کو جاری رکھنے اور اس کا نشیب و فراز سمجھنے کی کوشش کرار ہے تھے اور کوئی شک نہیں کہ یہ مشورہ بڑا سبق آموز اور مفید تھا۔

(حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت ص ۱۸۷)

## حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے ملفوظات و ہدایات

اور آپ کے مشوروں کی اہمیت، علماء و اکابرین امت کی نظر میں  
جناب مولانا افتخار فریدی صاحبؒ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے ارشادات و مکتوبات کے مرتب و جامع ہیں، تحریر فرماتے ہیں:  
مختلف حضرات کے لکھے ہوئے ملفوظات جو مہیا ہو سکے اس کتاب میں شائع کئے جا رہے ہیں.....

(۱) شیخ تبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ بھی ان ملفوظات کے لئے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بھی ان کی ضرورت ہے۔

(۲) حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ مدظلہ نے بھی اس کی تاکید فرمائی کہ حضرت کے ملفوظات کا مذاکرہ کام کرنے والے کرتے رہیں، چنانچہ حضرت کی خدمت میں مسودہ کی فوٹو اسٹیٹ کاپی مدینہ منورہ بھی گئی جس کو حضرت نے بہت پسند فرمایا اور روازانہ عصر کی مجلس میں اس کو سنایا گیا۔

(۳) حضرت مولانا علی میاں صاحب مدظلہ نے ان ملفوظات کو دیکھ کر خود ارشاد فرمایا کہ:

ہمارے خطوط بھی اس کے ساتھ شائع کر دئے جائیں، بہت اچھا ہے گا۔

(مقدمہ ارشادات و مکتوبات ص ۷)

## حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے تبلیغی ارشادات کی اہمیت

### خود آپ کی نگاہوں میں

حضرت مولانا محمد الیاسؒ صاحب نے ارشاد فرمایا.....

ہمارے اس کام کو سمجھنے اور سیکھنے کے لئے صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے یہاں آکر چند روز قیام کیا جائے اور یہاں کے رہنے والوں (تبلیغ کے پرانے کارکنوں) سے باتیں کی جائیں اور صرف میری ملاقات اور مجھ سے ہی باتیں کرنے کے درپے نہ ہو جائے۔

ہاں جس وقت میں خود کچھ کہوں اس کو سن لیا جائے، اور یہاں کے ارد گرد کام کرنے کے لئے بھی نکلا جائے، یعنی روزمرہ کے گشت میں شرکت کی جائے، پھر کچھ دنوں کے لئے میوات جا کر کام کی مشق کی جائے، اس کے بعد اپنی جگہ پر جا کر کام کیا جائے۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص ۸۵ ملفوظ نمبر ۱۰۳)

## مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے اخیر عمر کے ملفوظات

### وارشادات کی اہمیت

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی جنہوں نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی آخری عمر میں کافی وقت گزارا، اور حضرت کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر تبلیغی کارکنوں تک پہنچایا اور خود حضرت مولانا محمد الیاس صاحب جن پر پورا اعتماد فرماتے تھے وہ تحریر فرماتے ہیں:

ایک دن میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول رہا، مولانا کی خدمت میں زیادہ نہ بیٹھا، ظہر کے بعد حاضر خدمت ہوا تو فرمایا:

”تم کو زیادہ میرے پاس رہنا چاہئے“

عرض کیا کہ آج آنے والوں کا زیادہ بحوم تھا، میں نے ان کا پانے پاس رکھا اور تبلیغ پر ان سے باتیں کرتا رہتا کہ آپ کے پاس زیادہ بحوم نہ ہوا اور آپ کو زیادہ نہ بولنا پڑے، فرمایا: اس کی بھی یہی صورت تھی کہ تم میرے پاس رہتے، میں تم سے دل کی بات کرتا رہتا، تم دوسروں کو پہنچا دیتے، اس طرح میرے دل کا کانٹا تو نکل جاتا، تم میرے پاس رہو، میری باتوں کو سنتے رہو اور دوسروں کو پہنچاؤ تاکہ مجھے کسی سے خطاب نہ کرنا پڑے، بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تھجھ کو بولنے نہ دیں گے، مگر جب تک میرے دل کا کانٹا نکل جائے میں کیسے چپ ہو جاؤں، میں ہرگز چپ نہ ہوں گا، چاہے مر جاؤں۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص ۵۸ ملفوظ نمبر ۵۵)

تبلیغی ذمہ داروں اور امیروں کے لیے  
حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ  
کی اہم ہدایات

## باب (۲)

اپنے کو بڑوں کے مشوروں کا پابند رکھئے اور امت کے بڑوں

پر اعتماد کیجئے ورنہ بڑی گمراہیوں کا خطرہ ہے

فرمایا..... اس سلسلہ کا ایک اصول یہ ہے کہ آزاد روی اور خود رائی نہ ہو، بلکہ اپنے کو ان بڑوں کے مشوروں کا پابند رکھو جن پر دین کے بارے میں ان اکابر مرحومین نے اعتماد ظاہر کیا، جن کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق معلوم و مسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرامؐ کا عام معیار یہی تھا کہ وہ انہی اکابر پر زیادہ اعتماد کرتے تھے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص اعتماد فرماتے تھے۔ اور پھر بعد میں وہ حضرات زیادہ قابل اعتماد سمجھ گئے جن پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اعتماد فرمایا تھا، دین میں اعتماد کے لیے بہت تیقظ کے ساتھ انتخاب ضروری ہے، ورنہ بڑی گمراہیوں کا بھی خطرہ ہے۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاسؐ ص: ۱۳۳، ملفوظ نمبر: ۱۲۰)

علماء کی نگرانی اور تنبیہ کی ضرورت کا احساس

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:

آپ نے (یعنی حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؐ نے) آخری وقت تک اپنی طرف سے اطمینان نہیں کیا، اور نفس کے محاسبہ اور نگرانی سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ جس

قد ر لوگوں کا رجوع بڑھتا رہا اپنی طرف سے زیادہ غیر مطمئن اور خالق ہوتے گئے، اور احتساب نفس کا کام بڑھاتے رہے، بعض اوقات اہل حق اور اہل بصیرت کو بڑی لجاجت (و عاجزی) سے اس طرح متوجہ فرماتے کہ:

”وہ آپ پر نظر رکھیں اور اگر کہیں عجب و کبر کا شائئہ نظر آئے تو مننبہ کریں۔“

شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب<sup>ؒ</sup> و مولانا حافظ عبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ

مظاہر علوم کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

”عزیز محترم حضرت شیخ الحدیث و حضرت الحسن جناب ناظم صاحب

دامت برکاتہم السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام اتنا سعیح ہو گیا ہے کہ اب اس کی روز افزودن

ترقی و مقبولیت کو دیکھ کر میں اپنے نفس سے بالکل مامون نہیں ہوں کہ وہ کہیں عجب

و کبر میں مبتلا نہ ہو جائے، لہذا آپ جیسے اہل حق کی نگرانی کا میں سخت محتاج ہوں،

اور اپنی نگرانی کا آپ حضرات مجھے ہر وقت محتاج خیال کریں کہ اس میں کی خیر پر

مجھے جمنے کی تاکید فرمادیں اور اس میں کی شر سے مجھے بھنجھلاہٹ سے منع

کروں۔“ (دینی دعوت ص: ۲۵۷)

لکھنؤ کے قیام میں ایک دوست کے بیہاں عصر کے وقت چائے کی دعوت تھی،

پاس کوئی مسجد نہ تھی، ان کی کوٹھی ہی میں نماز باجماعت کا سامان ہوا، خود کھڑے ہو کر اذان

دی، نماز پڑھائی، نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف رُخ کر کے فرمایا:

”بھائیو! میں ایک ابتلاء (آزمائش) میں گرفتار ہوں، دعا کیجئے

کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکالے، جب سے میں یہ دعوت لے کر کھڑا ہوا

ہوں، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں، مجھے یہ خطرہ ہونے لگا ہے کہ

مجھ میں اعیاب نفس (اور تکبر) نہ پیدا ہو جائے، میں بھی اپنے کو بزرگ نہ

سمجھنے لگوں، میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس ابتلاء سے  
سلامت نکال لے، آپ بھی میرے حق میں دعا فرمائیں۔

(دینی دعوت ص: ۲۵۸)

## میرے اعمال کی نگرانی کرو، میں غلطی کروں تو مجھے ٹوکو

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے فرمایا:

میری حیثیت ایک عالم مومن سے اونچی نہ بھی جائے، صرف میرے کہنے پر عمل  
کرنا بددینی ہے، میں جو کچھ کھوں اُس کو کتاب و سنت پر پیش کر کے اور خود غور و فکر کر کے  
اپنی ذمہ داری پر عمل کرو، میں تو بس مشورہ دیتا ہوں۔

فرمایا..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ!

”تم نے میرے سر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، تم سب  
میرے اعمال کی نگرانی کیا کرو؟“

میری بھی اپنے دوستوں سے بڑے اصرار اور الحاج سے یہ درخواست ہے کہ:  
وہ میری نگرانی کریں، جہاں غلطی کروں وہاں ٹوکیں اور میرے رشد و سداد کے  
لیے دعا نہیں بھی کریں۔ (ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص: ۱۶۹، ملفوظ: ۲۱۰)

## میرے احوال پر نظر رکھئے اور ٹوکنے کی بات پر ٹوکئے

بعض خدام کو مناسب کرتے ہوئے فرمایا:

”حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہؓ اور حضرت معاویؓ سے فرماتے  
تھے کہ ”میں تمہاری نگرانی سے مستغنی نہیں ہوں“۔

میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میرے احوال پر نظر رکھئے، اور جو بات  
ٹوکنے کی ہو، اس پر ٹوکئے!۔ (ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص: ۱۳۳، ملفوظ: ۱۶۶)

## وقت کے مشائخ اور بزرگوں سے نیازمندانہ تعلق رکھنے کا فائدہ

فرمایا..... اس دینی کام (تبلیغ دین اور اصلاح امت کی عوامی تحریک) کی طرف مجھے متوجہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ ایسی خصوصیات حاصل تھیں کہ جن بعض اکابر کو میرے اس کام کے متعلق پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کچھ شکوہ بھی ہوئے تو انہوں نے بھی میری وجہ سے سکوت اختیار کیا اور اپنے اختلاف رائے کو ظاہر نہیں فرمایا، میری وہ خصوصیات یہ ہیں:

ایک تو یہ کہ میری نیازمندی کا تعلق اپنے زمانہ کے سب ہی بزرگوں سے رہا اور الحمد للہ سب کی عنایات اور سب کا اعتماد مجھے حاصل رہا۔

دوسرے یہ کہ میرے والد ماجد ایک عالی مرتبہ اور متفق علیہ بزرگ تھے اور باہم بہت سے اختلافات رکھنے والے اہل دین کے مختلف طبقے ان پر متفق تھے۔

تیسرا یہ کہ میرا خاندان ایک خاص اثر اور عزت و وجاهت رکھنے والا خاندان

تھا۔ (ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب جس: ۱۲۳، ملفوظ: ۱۶۲)

## علماء و مشائخ کی قدردانی اور احسان شناسی

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب عمر میں چھوٹے، رشتہ میں بھیجے اور آپ کے (یعنی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے) شاگرد بھی ہیں، ان کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

”گرامی نامہ موجب مسرت و عزت ہوا، آنعزیز کی تشریف آوری کا بے حد اشتیاق ہے، اگر بقول آپ کے میں حضرت ہوں تو آپ ماشاء اللہ حضرت گر ہیں۔“

مجھے لکھتے اور ناکارہ کو کون پوچھتا، اگر آپ کی توجہ اور کرم نہ ہوتا، حضرت (مولانا

خلیل احمد صاحب<sup>ؒ</sup>) کے بعد سب سے پہلے آپ ہی نے الاطاف واکرام فرمایا، یا پھر شیخ جی نے اظہار تعلق کیا، اور یہ سب آپ ہی حضرات کا طفیل ہے۔

آپ کی تشریف آوری کا جس قدر اشتیاق ہے اسی قدر خیال ہے کہ سامنے ہونے سے میری گندگیاں اور ظاہر ہوں گی، مگر اسی امید پر جی چاہتا ہے کہ آپ جیسوں کی مجالست اور ہم نشینی سے شاید اپنی بھی کچھ اصلاح ہو جائے۔

رمضان المبارک کی دل بستگی اور اس پاک ماہ کی برکات و انوارات سے استفادہ اہل دل کو مبارک ہو..... ہم جیسے ضعفاء کا کچھ حال نہ پوچھو، بس جوانانِ تیز رفتار کی دعاء و ہمتوں سے حق تعالیٰ شانہ اس ضعیف و مسکین کا بھی بیڑہ پار فرمائیں۔

(مولانا محمد الیاس صاحب کی دینی دعوت ص: ۲۵۶)

## شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کی قربانی کی قدر دانی اور ان کی

### تصانیف کی اہمیت، دعائیہ کلمات اور خیر کی پیشیں گوئی

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup>، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کے نام

ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

میرے عزیز! اس تبلیغ کے بوجھ کو بھاری سمجھتے ہوئے بطور اضطرار آپ کی خدمت میں دعا اور ہمت کا سائل ہو کر یہ خط لکھ رہا ہوں۔

میرے عزیز! اس میں شک نہیں ہے کہ آپ کی ہر طرح کی ہمت اور ہر طرح کی شرکت اس کے فروغ کا سبب ہے، تمہاری اس ہمت کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بندہ ناچیز کو اس تبلیغ کے اصول قرار دینے (اور تجویز کرنے) میں آپ کی صحبت کو بہت زیادہ دخل ہے، حق تعالیٰ مجھے آپ کے شکر کی توفیق بخشنے۔

اللہ کو منظور ہوا اور جیسے کہ آثار ہیں یہ تبلیغ فروغ پرستی انشاء اللہ تمہاری تصانیف

اور فیوض ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عرب و جنم کو سیراب کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا خیر دے، میری اس میں دعاء سے ضرور مدد کیجئو، اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔  
(مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی دینی دعوت ص: ۲۷۰)

## سارے کام کے ساتھ اپنی فکر اور اپنے اوپر خطرہ

فرمایا..... مجھے اپنے اوپر استدرج (یعنی اللہ کی طرف سے ڈھیل) کا خوف ہے (جامع ملغوٹات فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا کہ یہ خوف عین ایمان ہے (امام حسن بصریؑ کا ارشاد ہے کہ اپنے اوپر نفاق کا خوف مومن ہی کو ہوتا ہے) مگر جوانی میں خوف کا غلبہ اچھا ہے، اور بڑھاپے میں حسن ظن باللہ اور رجاء کا غلبہ اچھا ہے، فرمایا ہاں صحیح ہے۔  
(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص: ۶۳-۶۵)

## اپنی تھی دستی اور بے بضماعتی کا یقین ہی کامیابی ہے

فرمایا: اپنی تھی دستی کا یقین ہی کامیابی ہے، کوئی بھی اپنے عمل سے کامیاب نہ ہوگا محض اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:  
لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا  
أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغْمَدْنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ۔

(جامع الاصول حدیث: ۸۹-۲۱۲، جمع الغواہ کتاب، حدیث: ۱۰۰، حدیث: ۱۲۵، بالفارسی مختصر)

حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نہ جائے گا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں اللہ کے فضل و رحمت سے جاؤں گا۔

یہ حدیث پڑھ کر مولانا خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رو لایا۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص: ۶۰، ملفوظ نمبر: ۵۹)

## دعوے کا کلمہ نکل جانے سے توبہ و استغفار

### حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی کسر نفسی و تواضع اور اپنی فکر

جامع ملفوظات مولانا محمد منظور صاحبؒ نقل فرماتے ہیں:

جو لوگ دین دار اور دین داں ہونے کے باوجود دین کے فروغ کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے وہ جد و جہد نہیں کر رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا تقاضہ ہے ان کے بارے میں ایک روز حضرت کی زبان سے نکل گیا کہ:  
”ان لوگوں پر برحم آتا ہے۔“

اس کے بعد دیر تک اور مسلسل استغفار فرماتے رہے، پھر اس عاجز سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا:

”میں نے یہ استغفار اس پر کیا ہے کہ میری زبان سے یہ دعوے کا کلمہ نکل گیا تھا کہ ”مجھے ان لوگوں پر رحم آتا ہے۔“ (ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحبؒ ۷۶، ملفوظ نمبر: ۲۰۶)

## اللہ والوں کے سوچنے کا انداز

جو میواتی خدام حضرت کو اس وقت وضو کر رہے تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر اس عاجز سے ارشاد فرمایا:

”میں ابھی ان لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میری نماز اچھی ہوتی ہے لہذا تم مجھے وضو کراتے وقت بیمار کی خدمت کی نیت کے علاوہ یہ نیت بھی کیا کرو کہ اے اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اس بندے کی نماز ہم سے اچھی ہوتی ہے تو ہم اس کو اس لیے وضو کراتے ہیں کہ اس کی نماز کے ثواب میں ہمارا حصہ ہو جائے۔“  
پھر فرمایا..... یہ میں ان لوگوں کو بتلاتا ہوں لیکن میں خود اگر یہ سمجھنے لگوں کہ میری

نماز ان لوگوں سے اچھی ہوتی ہے تو مردوں ہو جاؤں گا، اس لیے میں اپنے اللہ سے یوں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ! تیرے یہ سادہ دل بندے میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ میری نماز اچھی ہوتی ہے اور اسی لیے یہ بیچارے مجھے وضو کرتے ہیں تو محض اپنے کرم سے ان کے گمان کی لاج رکھ لے اور میری نماز کو قبول فرمائے، اور اس کے ثواب میں اپنے ان بندوں کو بھی حصہ دے۔ (ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۱۵۶، ملفوظ نمبر: ۱۸۷)

## تمام تبلیغی کام کرنے والوں اور ذمہ داروں کو

### حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی اہم نصیحت

ایک مکتب میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ دعوت کے تمام ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

اپنے نفس کو تحریر سے ایسا بندہ، ناقص، خود غرض اور کام کا بگاڑ دینے والا دل سے یقین کرے کہ الطاف خداوندی کا قصہ تو کچھ اور ہے یہ موت تک راست ہوتا نظر نہیں آتا، لہذا اس میں سے سمجھی (اور کوشش) کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دوسروں میں پھیلایا دے کہ میرے علاوہ اللہ کے سب بندے جو اپنی ذات سے نیک طینت اور پاک نفس ہیں دین کے جس کام کو کریں گے وہ ظاہر و باطن میں اچھا عمل ہوگا، حق تعالیٰ بقا عده ”الدال علی الخیر کفاعله“ اپنے الطاف سے ان پاک ہستیوں کی برکت سے مجھے بھی اس سے حصہ عطا فرمادے۔

(مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی دینی دعوت ص: ۲۰۳)

## باب ۳

### ہماری تبلیغی تحریک کا مقصد پورے دین کو زندہ کرنا ہے

حضرت مولانا محمد احتشام الحسن صاحب کا نذر حلوی تحریر فرماتے ہیں:

حضرت اقدس (مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ر</sup>) دین کے محض بعض شعبوں کو نہیں بلکہ پورے دین کو دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کا پورا نقشہ سامنے لانا چاہتے تھے۔ (اسلام کا تبلیغی و اصلاحی نظام ص: ۲۷)

مولانا محمد منظور صاحب<sup>ر</sup> نقل فرماتے ہیں:

ایک صحبت میں فرمایا..... ہماری اس تحریک کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو ”جمعیع ماجاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ سکھانا (یعنی اسلام کے پورے علمی و عملی نظام کو وابستہ کر دینا) یہ تو ہے ہمارا اصل مقصد، رہی یہ قافلوں کی چلت پھرت اور تبلیغی گشت، سو یہ اس مقصد کے لئے ابتدائی ذریعہ ہے، اور کلمہ و نماز کی تلقین و تعلیم گویا ہمارے پورے نصاب کی ”الف، ب، ت“ ہے۔ (ملفوظات مولانا محمد الیاس<sup>ح</sup> ص ۳۲ ملفوظ نمبر ۲۲)

**فائده:** حضرت مولانا محمد الیاس<sup>ر</sup> نے اپنی اس دعوتی و تبلیغی تحریک کا اصل مقصد اس بات کو قرار دیا ہے کہ ”جمعیع ماجاء به النبی ﷺ“ یعنی رسول اللہ ﷺ جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں مسلمانوں میں ان تمام چیزوں کو زندہ کرنا اور پھیلانا، بس یہی ہماری تبلیغ کا مقصد ہے۔

اب دیکھنا یہ چاہئے کہ رسول اللہ ﷺ کیا چیز لے کر آئے اور آپ نے امت کو کن

کن چیزوں کی تعلیم دی، سمجھ لینا چاہئے کہ آپ جو پیغام لے کر آئے وہ زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے، اس کا تعلق عقائد و عبادات اور معاملات سے بھی ہے اور معاشرت و اخلاق اور سیاست و حکومت سے بھی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ہر ایک کے حقوق آپ نے بتائے اور ان کو ادا کرنے کی تاکید فرمائی، اس لئے اس تحریک اور دعوت و تبلیغ کے بنیادی مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو زندہ کیا جائے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق میں سے ہر ایک کے متعلق حضور پاک ﷺ کا پیغام معلوم کر کے اس پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد میں سے ہر ایک کا حق پہچانے اور اس کو ادا کرے، یہ ہے اس تحریک کا مقصد۔ (مرتب)

## جماعتوں کی نقل و حرکت تو کام کی ابتداء ہے

### مقاصد کی تکمیل کی شدید ضرورت

فرمایا..... لوگ میری تبلیغ کے برکات دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، حالانکہ کام اور چیز ہے اور برکات اور چیز ہیں، دیکھو! رسول ﷺ کی ولادت شریفہ ہی سے برکات کا تو ظہور ہونے لگا تھا مگر کام بہت بعد میں شروع ہوا اسی طرح یہاں سمجھو، میں سچ کہتا ہوں کہ ابھی تک اصلی کام شروع نہیں ہوا، جس دن کام شروع ہو جائے گا تو مسلمان سات سو برس پہلے کی حالت کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اگر کام شروع نہ ہوا بلکہ اسی طرح رہا جس طرح پر اب تک ہے اور لوگوں نے اس کو منجملہ تحریکات کے ایک تحریک سمجھ لیا اور کام کرنے والے اس راہ میں بچل گئے (یعنی جمود کا شکار ہو گئے اور اسی نقل و حرکت کو جو کہ ہمارے کام کی ابتداء اور الف، با، تا ہے اسی کو اصل مقصد سمجھ کر اسی پر اکتفاء کرنے لگے اور اصل کام جو مقصود ہے اور جو میں چاہتا ہوں جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اس

سے غافل ہو گئے) تو جو فتنے صدیوں میں آتے ہیں وہ مہینوں میں آ جائیں گے، اس لئے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ (اللہ تعالیٰ فتوؤں سے ہماری حفاظت فرمائے)

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب جس ۳۲ محفوظ نمبر ۳۸)

## تبلیغی چلت پھرت صرف طلب دین پیدا کرنے کا ذریعہ ہے

### آگے تعلیم و تربیت علماء کا کام ہے

فرمایا..... علماء سے کہنا ہے کہ ان تبلیغی جماعتوں کی چلت پھرت اور محنت و کوشش سے عوام میں صرف دین کی طلب اور قدر ہی پیدا کی جاسکتی ہے اور ان کو دین سیکھنے پر آمادہ ہی کیا جاسکتا ہے، آگے دین کی تعلیم و تربیت کا کام علماء اور صلحاء کی توجہ فرمائی ہی سے ہو سکتا ہے، اس لئے آپ حضرات کی توجہات کی بڑی ضرورت ہے۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب جس ۲۱۲، محفوظ نمبر ۷۱)

**فائده:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> نے اپنی اس تحریک اور دعوت و تبلیغ کے ذریعہ علماء و عوام کو جوڑنے کی پوری کوشش کی ہے، علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور جانشین اور علوم قرآن و حدیث کے حامل ہیں، امت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ناسیم رسول علماء ربانیین سے دینی ربط رکھ کر ان سے استفادہ کریں، اس دعوت و تبلیغ میں لگ کر صرف نکلا اور وقت گزارنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ نکلنے کی برکت سے تو محض دین کی طلب اور فکر پیدا ہوگی، دین سیکھنے کی ضرورت کا احساس پیدا ہوگا، باقی پورا دین سیکھنے کے لئے تواہل علم ہی سے ربط رکھنا پڑے گا کیونکہ تعلیم و تربیت علم و مشائخ ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے، یہی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کے فرمان کا حاصل ہے۔

حضرت<sup>ؒ</sup> کے اس قیمتی ارشاد سے واضح طور پر یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ اس دعوت و تبلیغ میں نکلنے اور وقت لگانے سے اصل مقصود دین کی طلب اور اپنی اصلاح و تربیت کی فکر

پیدا کرنا ہے، خود یہ کام اور اس میں نکلنا یہ اصل مقصود نہیں اور یہ کافی بھی نہیں بلکہ یہ کام تو اصل مقصود کا ذریعہ ہے، اصل چیز ہے دینی تعلیم و تربیت، جس کے نتیجہ میں زندگی کے ہر شعبہ میں دین آئے گا اور یہ بات علماء و مشائخ کے واسطے سے ہی ہو سکتی ہے۔

دوسری طرف حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے علماء کرام سے گذارش کی ہے کہ بھائی میں اتنا ہی تو کر سکتا ہوں کہ لوگوں میں میری اس دینی تحریک کے ذریعہ دینی روحان اور اپنی اصلاح کی فکر اور طلب پیدا ہو جائے، باقی عوام کو لے کر چلنا اور ان کی اصلاح و تربیت کی فکر کرنا اور اس کا نظام تجویز کرنا آپ حضرات ہی کا کام ہے، علماء و صلحاء کی توجہ کے بغیر اصل مقصود میں کامیابی نہیں ہو سکتی، اس لئے علماء حضرات سے گذارش ہے کہ ان بیچارے عوام الناس سے جو تبلیغ سے مسلک ہیں ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ فرمائیں اور ایسا نظام العمل اور خاکہ تجویز کریں جو ان کی اصلاح و تربیت کے لئے مفید اور کافی ہو۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے فرمان کے مطابق عوام الناس اہل تبلیغ پر لازم ہے کہ وہ علماء سے ربط رکھ کر اپنی دینی تعلیم و تربیت کا نظام تجویز کریں اور ان سے استفادہ کریں، اور علمائے کرام ان کو دینی فائدہ پہنچائیں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے بار بار تبلیغی حضرات کو توجہ دلائی ہے کہ علماء سے ربط رکھو، کام علماء ہی سے بنے گا، ان سے وقت لگانے اور جماعت میں نکلنے کو مت کہو، وہ اس سے بڑی دینی خدمت میں لگے ہیں جس کو دوسرے حضرات انجام نہیں دی سکتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان درمیان میں حائل ہو گیا، اس نے عوام کو علماء سے بدگان کر دیا جس کے نتیجہ میں بجائے رشتہ جڑنے کے ٹوٹنے لگا، اصحاب تبلیغ بس اسی کام کو اصل مقصود سمجھنے لگے اور تعلیم و تربیت سے غافل ہو کر علماء سے مستغثی ہو گئے بلکہ وقت نہ لگانے والے علماء سے دوری اختیار کر کے ان کے فیض سے محروم ہونے لگے۔ فانا اللہ وانا الیہ راجعون۔

## تبلیغ کا اصل مقصد یہ ہے کہ صنعت و حرف، زراعت و تجارت

اور زندگی کے ہر شعبے کے احکام زندگہ ہو جائیں

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ ایک مکتب میں تحریر فرماتے ہیں:

اس بندہ ناچیز کی نظر کے اندر وہ تبلیغ جس کے لئے آپؒ کو بھی بلا یا تھا اور خود بھی کوشش ہے اس کا منتها (اور اصل مقصد اور آخری منزل) دنیا کے مسلمانوں میں صنعت و حرف، زراعت و تجارت (یعنی مختلف پیشوں، ملازمت اور یقینی وغیرہ) کو شریعت کے ماتحت اور شریعت کے مطابق کرنا ہے۔

تبلیغ کی ابجد اور الف، ب، ت عبادات سے ہے اور عبادات کے کمالات کے بغیر ہرگز معاشرت اور معاملات تک اسلامی امور کی پابندی نہیں ہو سکتی۔  
سمحاصین کی صحیح اسکیم یہ ہونی چاہئے کہ تبلیغ کی ابجد الف، ب، ت یعنی عبادات کو دنیا میں پھیلانے کی اسکیم شروع کر کے اس کے منتها پر (یعنی تجارت، معاملات وغیرہ کے مسائل و احکام) پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں، معاملات و معاشرت اور باہمی اخلاق کی اصلاح و درستی کے ذریعہ سیاست تا مہما تک (یعنی حکومت و سیاست تک) رسائی ہو گی، اس کے سوا کسی جزئیات میں پڑ جانا اپنے سرمایہ درد کو شیطان کے حوالہ کر دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔

(حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ اور ان کی دینی دعوت ص ۳۰۸)

**فائده:** ظاہر بات ہے کہ یہ تمام مقاصد زراعت و تجارت وغیرہ کے احکام و مسائل سیکھنا، اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا علماء سے ربط رکھے اور ان سے رہنمائی حاصل کئے بغیر نہیں پورے ہو سکتے۔ (مرتب)

**دعویٰ و تبلیغی محنت دین کے تمام شعبوں و اداروں کے لئے بمنزلہ**

### وسیلہ کے اور تمام مقاصد کی تکمیل کا موثر ذریعہ ہے

دین کے ادارے اور جتنے بھی ضرورت کے امور ہیں (مثلاً مدارس، مکاتب، خانقاہیں، دارالافتاء، دارالقضاء، مسلم پرسنل لاء وغیرہ) ان سب (دینی امور) کے لئے تبلیغ (صحیح اصول کے ساتھ ملک بہ ملک پھرتے ہوئے کوشش کرنا) بمنزلہ زمین ہموار کرنے کے ہے، اور بمنزلہ بارش کے ہے، اور دیگر جتنے بھی امور ہیں وہ اس زمین مذہب کے اوپر بمنزلہ باغات کی پروش کرنے کے ہیں، باغات کے ہزاروں اقسام ہیں، کوئی کھجور کا ہے، کوئی انار کا ہے، کوئی سیبیوں کا ہے، کسی میں کیلے ہیں، اور کوئی پھلواریوں کا باغ ہے، باغ ہزاروں چیزوں کے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی باغ دو چیزوں کے اندر پوری پوری کوشش کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، پہلی چیز زمین کا ہموار اور درست ہونا، زمین کے ہموار کرنے میں کوشش کے بغیر، یا زمین میں کوشش کر کے خود ان کو باغات کی مستقل پروش کئے بغیر کسی طرح باغات پروش نہیں پاسکتے، سو دین میں (ہماری اس تحریک کے ذریعہ) تبلیغی امور کی کوشش یہ تو زمین مذہب ہے، اور سب ادارے باغ ہیں، اب تک زمین مذہب ایسی ناہموار اور ہر طرح کی پیداوار اور باغات سے اس قدر نامناسب واقع ہو رہی ہے کہ کوئی باغ اس پر نہیں لگتا۔

(حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت ص ۲۹۲)

### **اصل تبلیغ صرف دوامر کی ہے**

### احکام شرعیہ کی تبلیغ کرنا اور جذبات کا دینی بنانا

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:

اس کام کے لیے جب مسلمانوں کی جماعتیں نقل و حرکت میں آجائیں تو ان کے

کام کا نظام کیا ہوگا اور ترکیب کیا ہوگی؟ کس چیز کی اور کتنی کی دعوت دی جائے گی، اس کا جواب مولانا ہی کے الفاظ میں سنئے:

”اصل تبلیغ صرف دوامر کی ہے، باقی اس کی صورت گری اور تشکیل ہے ان دو چیزوں میں ایک مادی (یعنی ظاہری) ہے اور ایک روحانی۔

مادی سے مراد جوارح (اعضاء) سے تعلق رکھنے والی۔

سو وہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو پھیلانے کے لئے (خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، یا عبادات و معاملات اور معاشرت و اخلاق سے یا زندگی کے اور دوسرے شعبوں سے سارے ہی احکام کو) ملک بہ ملک اور اقلیم بہ اقلیم جماعتیں بناؤ کر پھر نے کی سنت کو زندہ کر کے فروغ دینا اور پائدار کرنا۔

روحانی سے مراد جذبات کی تبلیغ یعنی حق تعالیٰ کے حکم پر جان دینے کا روانج ڈالنا جس کو اس آیت میں ارشاد فرمایا:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ  
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (پ ۵ سورہ ناء)

(ترجمہ) فتحم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہواں میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرالیں، پھر آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پاویں اور پورا پورا تسلیم کر لیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ (پ ۲۷ سورہ ذاریت)

(ترجمہ) اور میں نے جن والنس کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔“

(مولانا محمد الیاس<sup>ؒ</sup> اور ان کی دینی دعوت ص ۲۸۷)

## تعلیم و تعلّم کی لائے سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کے

ذہن میں ایک خاکہ اور کرنے کا ایک کام

مُفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی<sup>ؒ</sup> حضرت مولانا محمد الیاس<sup>ؒ</sup> کی فکر و نظر کی ترجمانی کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

اس تعلیم و تعلّم کے کام میں ترقی کی بڑی گنجائش ہے مولانا (محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup>) اس کو اتنا مکمل اور جامع دیکھنا چاہتے تھے کہ ہر دینی و علمی سطح کے لوگوں کو اپنی تربیت و ترقی کا پورا موقع مل سکے، ان کے ذہن میں اہل علم کے لئے الگ خاکہ تھا جو ان کے مناسب حال اور ان کی سطح کے مطابق ہو۔

ایک گرامی نامہ میں (حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup>) تحریر فرماتے ہیں:  
اہل علم کیلئے عربیت، صحابہ کرام کے کلام، اعتصام بالکتاب والسنۃ اور نشر دین کی تحریص کے مضامین جمع کرنے کی خصوصی اور بہت اہتمام سے غور کی ضرورت ہے۔

علمی طبقہ کے لئے اس کے تیار ہونے کی بہت شدید ضرورت ہے، اس کے بغیر اس تحریک میں لگنے میں علمی ٹھیس اور ناقابل انجصار شکستگی اور کسر کا قوی خطرہ ہے (یعنی ناقابل تلافی نقسان کا اندیشہ ہے) اور اسی کی خوبی اور کمی پر علمی طبقہ نہ ہوں اور قعود پر ہنی ہے، اس لائے میں بندہ ناچیز کے دماغ میں کچھ ایسے ایسے خیالات ہیں کہ قبل از وقت ہونے کی بنا پر زبان سے نکالنے کو جی نہیں چاہتا۔

(مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کی دینی دعوت ص ۳۲۵)

## احکام و مسائل کی اہمیت

### مسائل کے بغیر اعمال اور اعمال کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا

ارشاد فرمایا: اعمال کے اندر بذریعہ فضائل ایمان درست ہوتا ہے اور اعمال کو مسائل کے موافق کرنے سے عبادت درست ہوتی ہے، اور نیت سے جو رضاۓ الہی کو لئے ہو، اعمال کامل ہوتے ہیں، ایماناً، احساناً، اعمال کو درست کرنا۔

ہر موقع کے اعمال کو اللہ کے امرؤں کے ساتھ کرو، وہ درست اور طھیک ہو جائیں گے۔  
اللہ کے امرؤں کو (یعنی احکام) زندہ کرنے میں جان و مال کی پرواہ نکال دو۔

(ص: ۷۹، ۸۰، ۷۶)

**فائده:** چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی بھی عمل ہواس کا تعلق خواہ عبادات سے ہو یا زندگی کے کسی شعبہ سے ہر عمل کے عند اللہ مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوسری اہم شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق اور شریعت کے موافق ہو، شریعت کے موافق ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے اوامر یعنی احکام و مسائل اور فتوے کے مطابق ہواس کے بغیر نہ وہ عمل درست ہوگا، نہ ہی عند اللہ مقبول ہوگا، اخلاص ہو لیکن عمل سنت کے مطابق نہ ہو، یا عمل تو مسئلہ کے موافق ہے لیکن اخلاص سے خالی ہو، دونوں صورتوں میں عمل مقبول نہ ہوگا، مقبول عمل کے لئے دونوں شرطیں ضروری ہیں، یعنی اخلاص اور عمل کا مسئلہ کے موافق ہونا۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اپنے تمام تبلیغی احباب کو اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اوامر و احکام کو سیکھو، مسائل کے بغیر اعمال درست نہیں ہوتے، اور اعمال کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس لئے ایمان کو کامل بنانے کے لئے اعمال صالحہ کا اختیار

کرنا، اور اعمال صالحہ کو درست کرنے کے لئے بقدر ضرورت احکام و مسائل کا سیکھنا ضروری اور فرض عین ہے۔

## فضائل مسائل کا زینہ ہیں، ضرورت دونوں کی ہے

### فضائل بمنزلہ وسائل اور مسائل بمنزلہ مقاصد کے ہیں

فرمایا..... فضائل کا درجہ مسائل سے پہلے ہے، فضائل سے اعمال کے اجر پر یقین ہوتا ہے جو ایمان کا مقام ہے، اور اسی سے آدمی عمل کے لئے آمادہ ہوتا ہے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت کا احساس تو تب ہی ہوگا جب وہ عمل پر تیار ہوگا، اس لئے ہمارے نزدیک فضائل کی اہمیت زیادہ ہے۔ (ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب <sup>حص</sup> ۱۶۲ ملفوظ نمبر ۲۰)

### احکام و مسائل کی تبلیغ اور اصلاح رسومات و تقسیم میراث بھی

#### ہمارے کام کی ترتیب میں شامل ہے

فرمایا..... بعض حضرات کو ہماری اس دعوتِ ایمان کی گہرائیاں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے لگاؤ نہیں ہے، اور اس کے بجائے دین کے بعض ان احکام و مسائل کی ترویج کی کوشش کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں جن میں مسلمانوں سے کوتا ہیاں ہو رہی ہیں، مثلاً صاحب اور ان کے اہل حلقہ کی نظر میں خاص طور سے شریعت کے فلاں فلاں خاص احکام کی ترویج اور رسوم بد کی اصلاح بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو ایسے حضرات کے ساتھ طریقہ عمل یہ ہونا چاہئے کہ میوات میں ان احکام و مسائل کی کوشش اور اصلاح رسوم کی سعی کے واسطے ہی ان کو اٹھایا جائے۔

ابھی تک میوات میں ترکہ کی تقسیم کے بارے میں بھی بڑی کوتا ہی ہے، شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم کرنے کا رواج بہت کم ہو سکا ہے، ایسی ہی اور بھی بہت سی بری تسمیں

ابھی راجح ہیں مثلاً ابھی تک گوئھ میں شادی کرنے کا روایج نہیں ہوا ہے۔ تو..... صاحب اور ان کے تبعین کو میوات میں ان ہی احکام کے پھیلانے کے واسطے اٹھایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ میواتی لوگ اس تبلیغی دعوت سے ایک درجہ میں منوس ہو چکے ہیں، لپس اگر آپ ان کے اس تبلیغی کام کی تھوڑی سی بھی سرپرستی فرمائیں گے تو پھر انشاء اللہ آپ کے ان مخصوص اصلاحی مقاصد اور اصلاح رسوم کے کام میں ان سے آپ کو بہت مدد ملے گی اور ان کے ذریعہ آپ میوات میں ان احکام و مسائل کی ترویج اور رسماں جاہلیت کی اصلاح کا کام آسانی سے کر سکیں گے۔

اس طرح ان حضرات کو تمہاری تبلیغی مہم کی گہرائیوں اور وسعتوں کو سمجھنے اور اس کے اثرات و نتائج کا مشاہدہ کرنے کا بھی موقع مل جائے گا، اور پھر انشاء اللہ ان کو اس طرف بھی توجہ ہو جائے گی۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ص ۸۳ ملفوظ نمبر ۹۸)

اس کی کوشش کیجئے کہ ہمارے کاروبار، قوم کی پنچا بیتیں اور فیصلے نکاح وغیرہ سب شرع کے موافق ہوں

مسائل اور احکام شرعیہ کی بے وقتی سے ایمان جاتا رہتا ہے

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب تحریر فرماتے ہیں:

زیادہ زور اس امر پر دیا جائے کہ قوم اپنی پنچا بیتیں اور اپنے سب کاروبار اور سب فیصلہ شریعت کے موافق کرنے ہی کو اسلام سمجھیں، ورنہ اسلام نہایت ناقص ہے بلکہ بسا اوقات احکام شرعیہ کی بے وقتی اور بے رخی اور توہین کی بدولت اسلام جاتا رہتا ہے، اور یقیناً کفر ہو جاتا ہے۔ (مولانا محمد الیاس صاحب کی دینی دعوت ص ۲۲۱)

**فائده:** حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب <sup>ر</sup> نے تمام تبلیغی احباب اور تبلیغ

سے مسلک حضرات کو نہایت اہم کام کی طرف توجہ دلائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی مر وجہ شکل کو اختیار کر کے صرف اسی پر اکتفاء اور بس نہ کریں، یہ تو اصل کام کا ذریعہ ہے، اس کام کے ذریعہ تو طلب اور پیاس پیدا ہوگی، اب آگے کرنے اور زندگی میں لانے، زندہ کرنے اور رواج دینے کے کام یہ ہیں کہ ہمارے سارے معاملات، تجارت، کاروبار، بھیتی، باغبانی، شادی بیاہ وغیرہ سارے معاملات شریعت کے مطابق ہونے لگیں، اس کے لئے ضروری ہوگا کہ تاجر، کاشتکار، باغ والے، ملازم پیشہ حضرات علماء کی طرف رجوع کر کے اس سلسلہ کے شرعی احکام اور مسائل معلوم کریں، یا خود معتبر کتابوں کا مطالعہ کریں یا علماء و مفتیوں سے ربط رکھ کر ان احکام و مسائل کے سیکھنے کا نظم بنائیں، اس کام کے لئے علیحدہ سے وقت مقرر کریں، الغرض جو بھی صورت اختیار کریں، ہماری پوری معاشرت، خوشی، غمی اور ہمارے تمام معاملات شرع کے مطابق ہونے چاہئے، بعض علاقوں میں باغ والے حضرات آج کل کثرت سے ناجائز معاملات میں مبتلاء ہیں، اور ان کو اس کا علم بھی نہیں۔

اسی طرح حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کے فرمان کے مطابق ہمارے تمام نزاعی معاملات، قومی پنچابیتیں، جو عموماً ہر ماہول اور ہر خاندان میں پیش آتے رہتے ہیں ان کو اسلامی قانون کے مطابق اسلامی عدالت اور دارالافتاء کے واسطے سے حل کرائیں، اور اس سلسلہ میں معتبر قاضیوں اور مفتیوں کی خدمات حاصل کریں، اور ان کے ذریعہ ہی مسائل سلجھانے کی کوشش کریں اور جن علماء اور قاضیوں اور مفتیوں کی خدمات حاصل کی جائیں وہ بھی بشر ہیں دنیا میں رہتے ہیں ان کی ضروریات اور بشری حاجتیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں ان کی ضروریات سے بھی غافل نہ ہوں، علماء کی خدمات حاصل کئے بغیر امت ان کا مولوں کو ناجام نہیں دے سکتی۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> فرماتے ہیں ان کا مولوں کی اہمیت سمجھو! یہ سب اتنے ضروری کام ہیں کہ ان کے بغیر ہمارا اسلام ہی ناقص ہوگا بلکہ اگر ان اعمال اور اس

نوع کے احکام و مسائل کی بے قعی دل میں آگئی اور تو ہین واستخفاف والی باتیں ہماری زبان پر آگئیں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ فرمائے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لئے خطرہ ہے کہ ان کا ایمان ہی جاتا رہے، اور وہ کفر سے جالیں، خطرہ ہے کہ ان کا خاتمه ایمان پر نہ ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ (مرتب)

## تبلیغی احباب اب شرع کے مطابق میراث کاررواج

### دینے کی کوشش کریں اور اس کی تبلیغ کریں

**فومایا:** میں چاہتا ہوں کہ اب میوات میں فرائض (یعنی تقسیم میراث کے شرعی طریقہ) کو زندہ کرنے اور رواج دینے کی طرف خاص توجہ کی جائے اور اب جو تبلیغی وفود وہاں جائیں وہ فرائض کے باب کے (یعنی میراث کے سلسلہ کے) وعدوں اور عیدوں کو خوب یاد کر کے جائیں۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۱۰۵، الملفوظ نمبر ۱۲۶)

## تبلیغی احباب اب یہ کام بھی کریں کہ ان کے باہمی نزاعات و مقدمات شرع کے مطابق اسلامی عدالت سے حل کئے جائیں

**فومایا:** میں اب میوات میں یہ بات پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے نزاعات کا فیصلہ اللہ و رسول سے تعلق رکھنے والوں سے اور شریعت کے مطابق کرائیں، اور انکا جذبہ یہ ہو کہ اللہ و رسول سے تعلق رکھنے والوں کے فیصلہ سے اگر آدھا بھی ملے تو وہ سراسر رحمت اور برکت ہے اور خلاف شریعت فیصلے کرنے والے سارا بھی دلوائیں تو وہ وبال اور بے برکت ہے۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص ۷۰، الملفوظ نمبر ۱۳۰)

اتحاد و قائم کرانے کے لئے مختلف تنظیموں تحریکوں اور

### خاندانوں میں مصالحت بھی کرائیے

”کرنال“ (ایک موضع کا نام ہے اس) کے بارے میں فرمایا کہ (وہاں) جماعتیں جائیں اور نواب لوگوں میں مصالحت کرادیں، لیکن اصل مصالحت جو ہے وہ اللہ کے امروں کو دنیا میں پھیلانا ہے اب اس ترتیب سے اللہ کے امروں کو زندہ کرنے میں دنیا میں پھیل جاؤ اور تفریق (اختلاف) کو مٹاؤ۔

اپنے حقوق کو لینا اور اس میں مارا جانا جو ہے اس سے شہادت کا ثواب ملتا ہے لیکن دین کے واسطے اگر (اپنے ذاتی) حق کو چھوڑ دیوے تو فی کھجورِ واحد پہاڑ سونا خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے۔

آپس میں مصالحتیں کرو! اس طرح طاقتیں جمع ہوتی چلی جائیں گی، اور کفر میں حق کو پھیلانے کی وجہ سے کفر میں تفریق پڑتی چلی جاوے گی یہاں تک کہ شیرازہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اور اسلام کی طاقت حق پھیلانے کی وجہ سے بڑھ جائے گی۔

(ارشادات و مکتوبات ص ۸۲ مبلغ نمبر ۵)

**فائده:** کرنال جہاں روساء اور نواب لوگ بھی رہتے ہیں، دین سے دوری اور آپسی اختلافات کا شکار ہیں، حضرتؐ نے اپنے تبلیغی احباب کو جو سمجھدار اور باصلاحیت ہوں ان کے متعلق فرمایا کہ ایسے لوگوں کی جماعتیں وہاں بھی جائیں جو ان کے درمیان مصالحت کرائیں، آپسی اختلافات اور رنجشوں کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق قائم کرائیں یہ بھی ایک اہم کام ہے جو صدقہ اور فضل سے بڑھ کر ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے بھی یہ کام کئے ہیں، آپ مختلف موقعوں پر مختلف خاندانوں میں صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے تھے، یہ نبیوں والا کام ہے اس لئے حضرتؐ نے اپنے احباب کو متوجہ فرمایا کہ اس کام کی

طرف بھی توجہ کریں اور جو اس کے اہل ہوں وہ اس کام کو جماعتی طور پر انجام دیں، یعنی اللہ کے بندوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کریں۔

اس کے ساتھ ہی حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے دعوت الی اللہ کی طرف توجہ دلائی کہ ایک تو بندوں کے درمیان مصالحت کرانا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان مصالحت کرانا ہے، مصالحت یہ مجازی معنی میں استعمال کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، گویا اللہ سے بغاوت کر رکھی ہے، ایسے باغی اور نافرمان بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑنا ہے اللہ کے دین کی طرف کھیچ کر لانا ہے بس یہی اللہ سے مصالحت ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہم کو اپنی اس دعوت و تبلیغ کے ذریعہ اس بات کی کوشش کرنا چاہئے کہ مخلوق میں سے ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے اور ان کے ادا کرنے کا اہتمام ہو، اسی طرح اللہ رب العالمین کے بھی حقوق پہچاننے اور ان کے ادا کرنے کی فکر ہو، یہی ہمارے اس کام کا مقصد ہے۔

اور یہ کام ہوگا کیسے؟ محسن اپنی رائے سے نہیں بلکہ اللہ کے اوامر اور اس کے احکام کے ذریعہ یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں جس طرح اللہ کے نبی ﷺ نے اس کام کو کرنے کو فرمایا ہے اسی طرح کرنا ہے، اور اس طرح اللہ کے سارے اوامر اور احکام شرعیہ کو زندہ کرنا ہے، اور اس کام کے نتیجہ میں بالفرض اگر ہمارا کچھ نقصان بھی ہو جائے یا ہمارا حق فوت ہو جائے تو واحد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اتحاد و اتفاق کی جب اس طرح کوشش کی جائے تو مسلمان متحدر ہو کر مضبوط ہو جائیں گے اور کفر کی طاقت کمزور ہوتی چلی جائے گی، کافر کمزور اور مغلوب ہو جائیں گے اور اسلام کا غلبہ ہوگا، یہ ہے غلبہ اسلام کی صورت کہ باہم اتحاد و اتفاق کی کوشش کی جائے۔

**فائده:** اتحاد و اتفاق کے موضوع پر حضرت تھانویؒ کے افادات پر مشتمل "امت کے باہمی اختلافات اور ان کا حل"، اس مقصد کے لیے نہایت مفید اور جامع ہیں۔ ابھی

غیر مطبوعہ ہے اللہ تعالیٰ جلد اس کی طباعت کا انتظام فرمادے، اسی طرح اس موضوع سے متعلق مولانا صدیق احمد صاحب باندویؒ کے مضامین و مکاتیب کا مجموعہ اسی نام سے شائع ہو چکا ہے، اختلاف کو مٹانے اور اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کے لیے اس کا مطالعہ بھی ان شاء اللہ مفید ہو گا۔

## ان جڑوں کو مضبوط کیجئے

**فرمایا:** تاو قتیکہ (یہ) جڑیں مضبوط ہوں اس وقت تک آگے کی شاخیں سر سبز نہیں ہو سکتیں، اور وہ جڑیں کیا ہیں؟ نماز، قرآن ذکر، مسلمان کا وقار، تبلیغ، اخلاص نیت اور اخلاق و اکرام کے ساتھ۔ (ارشادات و مکتوبات ص ۳۲)

**فائده:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی فکر اور فرمان کے مطابق دین کے چند اہم شعبے اور بنیادیں یہ امور اور یہ اعمال ہیں جن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ بنیادیں مضبوط ہو جائیں تو اس کے ثمرات اور نتائج بھی اچھے ہوں گے، ورنہ صرف دین کا نام ہو گا اور شیطانی دھوکہ ہو گا حقیقت نہ ہوگی، وہ بنیادی اعمال جن کی طرف حضرتؐ نے توجہ دلائی ہے یہ ہیں:

- (۱) نماز: سنت کے مطابق ہونا چاہئے، اس کے اندر پڑھی جانے والی چیزیں مثلاً شاء، تشهد، دعاء، قنوت وغیرہ صحیح اور درست ہوں، نماز پڑھنے کی مثلاً قیام و قعود وغیرہ کی ہیئت بھی سنت کے مطابق ہوا دردِ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو تو نماز کامل ہو گی۔
- (۲) قرآن بالکل صحیح تجوید کے مطابق سیکھنے اور تلاوت کرنے کا اهتمام ہو، اگر اب تک نہ سیکھا ہو تو اب سیکھنے کی کوشش کی جائے۔
- (۳) علماء و مشائخ سے مشورہ اور استفسار کے بعد ذکر کا معمول رکھے۔

(۴) مسلمانوں کے جتنے طبقات ہیں ان کے درجہ کے مطابق ہر ایک کا وقار اور احترام ملحوظ رکھے، مثلاً عوام الناس، علماء، خواص، مشائخ، بزرگان دین، یہ سب مختلف

طبقات ہیں، ہر ایک کے درجہ کے موافق ان کی عزت اور وقار کا لحاظ رکھے، جن سے خاص تعلق ہے، مثلاً رشته دار وغیرہ ان کے حقوق پہچانے اور ادا کرے۔  
(۵) اور دین کی جو باتیں اپنے بڑوں سے سیکھی ہیں ان کو دوسروں تک پہچانے کی اور سکھلانے کی کوشش کرے۔

(۶) اور ہر ایک کے ساتھ اخلاق و اکرام کا معاملہ کرے، حسن اخلاق اور نرمی سے پیش آئے، حسب گنجائش دوسروں کی خدمت کرے، اور ان کو نفع پہنچانے اور خوش رکھنے کی کوشش کرے۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے فرمان کے مطابق یہ ہیں تبلیغ کی جڑیں جن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کی کچھ تفصیل آگے بھی آرہی ہے، اور چھ نمبر کی تفصیل میں ان شاء اللہ مستقلًا آئے گی۔

## داعی کے نصاب تعلیم کا اہم جزء تجوید کے ساتھ قرآن شریف سیکھنا بھی ہے

**فرمایا** ..... تبلیغی جماعت کے نصاب کا ایک اہم جزء تجوید بھی ہے، قرآن شریف اچھی طرح پڑھنا ضروری چیز ہے، ”ما أذن الله لشيء ما أذن لنبىٰ يتغنى بالقرآن“۔ (بخاری و مسلم)  
تجوید دراصل وہی تغنى بالقرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر ہم تک پہنچی ہے۔

لیکن تجوید کی تعلیم کے لئے جتنا وقت درکار ہے جماعت میں اتنا وقت نہیں مل سکتا، اس لئے ان ایام میں تو صرف اس کی کوشش کی جائے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت کا احساس ہو جائے اور کچھ مناسبت ہو جائے اور پھر اس کو سیکھنے کی کے لئے وہ مستقل وقت صرف کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ص ۲۵۱ المفوظ نمبر ۲۰۲)

**ہر داعی و مبلغ کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے**

**فومایا:** قرآن کے لئے تجوید ضروری ہے، تاکہ ان کی زبان کے موافق ہو جیے

حضور ﷺ پڑھتے تھے۔

ہر مبلغ تبلیغ کے زمانے میں دس پندرہ منٹ تجوید کے سیکھنے میں خرچ کرے۔

قرآن ہی سے انسان کچھلے پھولے گا، اس کی تجوید کا وقت تھوڑا سا روزانہ نکالو۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۲۵، ۲۷ و ۲۸)

**فائده:** ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اور ضروری کام علم دین حاصل کرنا ہے جس میں تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنا بھی ہے، جس کے بغیر ہماری نماز کامل نہیں ہو سکتی، علماء محققین نے تجوید کے مطابق اتنا قرآن پاک سیکھنے کو فرض عین قرار دیا ہے جس سے ہماری نمازوں کم از کم درست ہو سکے، جس کے لئے ہم پیدا کئے گئے ہیں اور جو ہماری زندگی کا اصلی مقصد ہے،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ۔ (پ ۲۷ سورہ ذاریت) (میں

نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب فضائل قرآن میں تحریر فرماتے ہیں:

**مسئلہ:** اتنے قرآن شریف کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر

فرض ہے۔ (فضائل اعمال، رسالہ فضائل قرآن ص: ۲۱)

**فائده:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس کی

شرح میں حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ فضائل قرآن میں تحریر فرماتے ہیں:

پہلے معلوم ہو چکا کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے کلام کی طرف خصوصیت سے توجہ فرماتے ہیں، پڑھنے والوں میں ان بیاء چونکہ آداب تلاوت کو بکمالہ ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کی طرف اور زیادہ توجہ ہونا ظاہر ہے، پھر جب کہ حسن آواز اس کے ساتھ مل جائے تو

سونے پر سہا گہ ہے۔ (فضائل قرآن، تشریح حدیث نمبر ۲۵ ص: ۲۲۲)

(خلاصہ یہ کہ ترتیل و تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا مطلوب ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے اور حدیث پاک میں بھی، ترتیل سے پڑھنا کس کو کہتے ہیں اس کے متعلق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب<sup>ؒ</sup>، شاہ عبدالعزیز<sup>ؒ</sup> کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں):

”ترتیل لغت میں صاف اور واضح طور سے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور شرع شریف میں کئی چیز کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں:

(۱) اول حروف کو صحیح نکالنا یعنی اپنے مخرج سے پڑھنا، تاکہ طاکی جگہ تا، اور ضاد کی جگہ ظانہ نکلے۔

(۲) دوسرے وقوف کی جگہ پراچھی طرح سے ٹھہرنا تاکہ وصل اور قطع کلام کا بے محل نہ ہو جائے (یعنی بے موقع سانس نہ توڑے)۔

(۳) تیسرا حرکتوں میں اشباع کرنا، یعنی زیر، زبر، پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا۔

(۴) چوتھے آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا تاکہ کلام پاک کے الفاظ زبان سے نکل کر کانوں پر پہنچے اور وہاں سے دل پر اثر کریں (بشر طیکہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، مثلاً سونے کے وقت میں سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو، نماز کے وقت میں زور سے پڑھنے سے نمازوں کو خلل نہ ہو)۔

(۵) پانچویں آواز کو ایسی طرح سے درست کرنا کہ اس میں درد پیدا ہو جائے اور دل پر جلدی اثر کرے اور درد والی آواز دل پر جلد اثر کرتی ہے۔

(۶) چھٹے تشدید اور مد کو اچھی طرح ظاہر کیا جائے کہ اس کے اظہار سے کلام پاک میں عظمت ظاہر ہوتی ہے اور تاثیر میں اعانت ہوتی ہے۔

(۷) ساتویں آیاتِ رحمت و عذاب کا حق ادا کرے (یعنی آیاتِ رحمت میں

اللہ سے امید رکھے اور اللہ سے رحمت کا سوال کرے، اور آیاتِ عذاب میں اللہ سے ڈرے اور اس کی پناہ مانگے۔)

یہ سات چیزیں ہیں جن کی رعایت ترتیل کھلاتی ہے (جس کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، (پ: ۲۹، سورہ مزمل) اور قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھا سمجھے)۔ (فضائل قرآن)

ظاہر بات ہے کہ ان سب چیزوں کی رعایت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا کسی ماہر قاری سے سیکھے اور مشق کیے بغیر عادۃ ناممکن ہے، اس لیے اس کی کوشش کرنا بہر حال ضروری ہے، اسی کی طرف حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے اپنے تمام دعوت و تبلیغ سے مسلک حضرات کو تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے، خواہ اپنی مسجد کے امام سے سیکھیں، یا کسی قاری صاحب، سے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس کے سیکھنے سکھانے کا نظم بنائیں، بہر حال یہ کام ضروری ہے، ورنہ پرانے اور برہما بر س سے کام میں جڑے اور وقت لگائے ہوئے حضرات ایسے بھی ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کے نتیجہ میں اب تک ان کی اذان اور قرآن تجوید کے مطابق نہیں، حضرتؐ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے زمانے میں بھی اس کام کے لئے تھوڑا وقت نکالو! اس میں وقت کم ملتا ہے تو گھر آ کر مستقل اس کا نظام بناؤ۔ افسوس کی بات ہے کہ حضرتؐ کے اس ارشاد کی طرف سے لوگ غفلت میں مبتلاء ہیں، محض نکلنے ہی کو کافی سمجھتے ہیں اور آگے کوشش نہیں کرتے۔

**جهاں ابتدائی تبلیغ ہو چکی ہو وہاں مکتب کی دعوت شروع کر دیجئے**

**فرمایا:** جہاں کلمہ اور نماز ذکر زیادہ ہو چکا ہے وہاں مالی خرچ کا اور مکتب کی دعوت دینا شروع کریں۔ (ارشادات و مکتوبات حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص: ۸۲)

اہل تبلیغ کو دوバتوں میں بہت کوشش کرنا چاہئے، ان دوバتوں میں پوری سعی کریں:

(۱) کہ آدمی بھی کثرت سے نکلیں تاکہ زمین تیار ہو۔  
 (۲) اور مکاتب (ومدارس) کی کثرت ہو اور وہ روشن زندگی کی ہو کہ ہر مسلمان کی مسجد وہاں کی بچوں کے مکتب کی صورت ہو (یعنی ہر مسجد میں دینی تعلیم اور مکتب کا نظام ہو) اپنے دشمن کی گھات سے ہوشیار رہو، حق تعالیٰ جل جلالہ کی حصول رضا میں جان دے دینے کے رواج میں پوری کوشش کرو۔

آگے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب تحریر فرماتے ہیں:

**ملاحظہ:** اس خط کی نقلیں مختلف احباب کی طرف روانہ فرماویں۔

(مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ص ۱۳۰)  
 مرتبہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی

**قرآن پاک کی تعلیم کے لئے گاؤں گاؤں مکتب قائم کرو**

علم دین کی اشاعت کرو

**فرمایا** ..... مکتب اپنے خرچ سے ہر گاؤں میں قائم کرو، قرآن کو شائع کرو، شائع ہونا عظمت کی دلیل ہے، انہیں کاموں کو گاؤں گاؤں پھیلاؤ یہ آقا کا حکم ہے، غلام کو اس کا ماننا ضروری ہے۔ (ارشادات و مکتوبات ص ۵۳)

**فائدہ:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا یہ فرمان دراصل ایک حدیث پاک کی تشریخ اور اس کا خلاصہ ہے جس کو حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں نقل فرمایا ہے ”یا أهل القرآن لا تتوسدو القرآن ... وافشووه“۔ (بیہقی)

یعنی اے قرآن والو! قرآن شریف سے تکمیل نہ لگاؤ، کلام پاک کی اشاعت کرو۔ اس کی شرح میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

اور اس کی اشاعت کرو یعنی تقریر سے، تحریر سے، ترغیب سے، عملی شرکت سے جس

طرح ہو سکے اس کی اشاعت جتنی ہو سکے کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کا حکم فرماتے ہیں، لیکن ہمارے روشن دماغ اس کے پڑھنے کو ضرور بتلاتے ہیں۔ (فضائل قرآن تشریح حدیث نمبر ۲۷۸ ص: ۲۷۸)

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے مذکورہ بالافرمان میں دعوت سے مسلک تمام حضرات کو پوری تاکید کے ساتھ ہدایت فرمائی ہے کہ گاؤں گاؤں دینی مکتب قائم کرو جہاں بچوں کو دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو، اس طرح قرآن پاک کی اشاعت ہوگی، قرآن پاک کی اشاعت حق تعالیٰ کے کلام کی عظمت کی دلیل ہے یہ اتنا ضروری کام ہے کہ آقا کا حکم ہے، ہم آقا کے غلام ہیں اور غلام کو آقا کا حکم ماننا ضروری ہے۔

اس لئے تمام دعوت و تبلیغ کے احباب کو چاہئے کہ اپنے محلہ میں مکتب قائم کریں، بچوں کی دینی اور قرآنی تعلیم کا نظام بنائیں، اس کے لئے اچھے مدرس کا اور معقول تنخواہ کا انتظام کریں، جب اپنے یہاں اور اپنے قرب و جوار میں مکتب قائم ہو جائیں تو دیہاتوں میں گاؤں گاؤں میں مکتب قائم کرنے کی کوشش کریں، ان کو اس پر آمادہ کریں، اگر وہ نہ کر سکتے ہوں تو ہم اس کا انتظام کر دیں، یہ مطلب ہے گاؤں گاؤں مکتب قائم کرنے کا اور یہ ہے اہم ہدایت بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی۔

## قرآن پاک کے حقوق

**فرمایا:** قرآن پاک کو تہائی میں اہتمام سے اور وقار کے ساتھ پڑھا کرو۔

(ارشادات و مکتوبات ص ۲۳)

**فائده:** حضرتؒ کا یہ ارشاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا حاصل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”واتلوا حق تلاوته من آناء الليل والنهار“، یعنی قرآن کی تلاوت شب و روز ایسی کرو، جیسا کہ اس کا حق ہے۔  
اس کی شرح میں حضرت شیخ فرماتے ہیں:

یعنی جس عزت سے با دشاد کافر مان اور جس شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہئے۔ (فضائل قرآن ص: ۲۳۶، حدیث: ۲۷)

قرآن پاک حق تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے جو ہماری ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے، اس کے بہت سے حقوق ہیں، بعض الفاظ کے اعتبار سے اور بعض معانی کے اعتبار سے، تمام اہل ایمان پر قرآن پاک کے حقوق ادا کرنا لازم ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے قرآن پاک کے ایک حق کی طرف توجہ دلائی ہے۔

الفاظ کے اعتبار سے تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح صحیح تجوید کے مطابق پڑھنے کی مشق کی جائے اور پھر روزانہ پورے اہتمام اور وقار کے ساتھ اس کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، اپنی اولاد کو بھی اس کا عادی بنایا جائے۔

معانی اور احکام کے متعلق اس کا حق یہ ہے کہ اگر خود اتنی صلاحیت ہے کہ تفسیر کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کر کے حق تعالیٰ کے پیغام کو اچھی طرح سمجھ سکیں تو اس کا اہتمام کریں ورنہ درس قرآن، درس تفسیر کا انتظام کر کے جانے والوں سے قرآن کے پیغام کو سمجھیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ہم کو کیا ہدایت دی گئی ہے، وقت اور حال کے حکم کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں، اور یہ بات معتبر علماء کے درس قرآن کے ذریعہ ہی سے حاصل ہو سکے گی۔

ذکر کی بہت سی فرمیں ہیں، ایک فتح تلاوت قرآن پاک بھی ہے جو ذکر کی اعلیٰ قسم ہے، جس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، حضرتؒ نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے تاکہ دل کا زنگ دُور ہو۔

## قرآن کو رہبر بنانے اور مفید مرافق کی تعلیم

**فرمایا:** صفاتِ الہی اور حشر کا پیش نظر رکھنا اور قرآن شریف کو رہبر بنانا اور قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث کو تلاش کرنا۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۹۳)

**فائده:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اپنے اس مختصر ارشاد میں تمام دعویٰ کام کرنے والوں کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی ہے۔

(۱) حق تعالیٰ کی صفات کا نیز مرنے کے بعد پیش آنے والے حالات قبر، حشر و نشر کا مراقبہ، اور ہر وقت حق تعالیٰ کی صفات کو پیش نظر رکھنا مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع، بصیر، خبیر ہے، میری ہر حرکت دیکھ رہا ہے، ہر بات سن رہا ہے، قادر ہے یعنی اس کی قدرت کا بھی استحضار ہوتا کہ غیر اللہ کی قدرت و طاقت سے مغلوب و مروع ب نہ ہو، اسی طرح حشر و نشر کا استحضار کہ مرکر ہم کو اپنی سب حرکتوں کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس مراقبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی۔ اور اعمال صالح اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر اعمال صالحہ کا معیار اور اس کا دستور کیا ہونا چاہئے، اس کے لیے فرمایا:

(۲) قرآن شریف کو رہبر بناؤ، خود اللہ کا فرمان ہے اِنْ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي  
الآیة، هُدًی لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن رہبر اور رہادی ہے، لیکن قرآن کے ذریعہ رہبری کیسے حاصل ہوگی اس کے لیے فرمایا کہ اس میں اللہ کا جو پیغام بندوں کو دیا گیا ہے، اس پیغام کو سنو، غور کرو، درس قفسیر کے ذریعہ اس پیغام کو سمجھو، حدیث کی روشنی میں اس سے رہنمائی حاصل کرو، اسی درس قرآن کے ذریعہ انبیاء کے واقعات سننے سے ایمان بھی بنے گا اور رہبری بھی حاصل ہوگی۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اخلاق ہر ہر شعبہ سے متعلق قرآن سے رہبری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ رہبری عام حالات میں عام لوگوں کو معتبر علماء کے درس قرآن کے ذریعہ یا کسی معتبر تفسیر کے مطالعہ کے ذریعہ سے ہی ہو سکتی ہے، جس کی طرف سے آج لوگوں کو بڑی غفلت ہے۔

## قرآن پاک کی اہمیت اور اس کے حقوق

**فرمایا:** قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات پر غور کرو..... قرآن پاک کی تلاوت ذکر میں شامل ہے، اس کو محض رضاہ

خدا کے واسطے عمل میں لاوے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کے احکام ہیں، غرضیکہ اس کے علاوہ مسلمانوں کا اور کوئی رستہ نہیں ہے، مسلمانوں نے اس سے کس قدر بے التفاتی کر رکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی اس کی تفصیل ہے، گویا قرآن پاک (پورا) دین ہے، اس کے اندر اعمال ہیں، اخلاق، خالق مخلوق کا برتاوہ ہے، قرآن کی ہر ہر آیت میں ہزاروں معجزات (نکتے) ہیں۔

(ارشادات و مکتبات ص: ۲۷)

**فائده:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اپنے اس فرمان میں قرآن پاک کی اہمیت اور اس کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یقین دلایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کے علاوہ کوئی دوسرا استہ نہیں قرآن پاک میں پورا دین ہے، اس میں اعمال و اخلاق اور یہ کہ بندوں کا اپنے خالق اور اس کی مخلوق کے ساتھ کیسا برتاوہ ہونا چاہئے، قرآن پاک سے معلوم ہوگا، اور ان سب کی تشریع و تفصیل حدیث پاک کی کتابوں میں ملے گی۔

حضرتؒ نے قرآن پاک کے بعض حقوق کی طرف بھی نشاندہ فرمائی ہے۔ جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے:

(۱) قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنا پڑھانا کہ یہ بھی ذکر کا اعلیٰ فرد ہے، اور یہ سمجھ کر یعنی اس تصور و استحضار کے ساتھ الفاظ کو پڑھے اور تلاوت کرے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: خيركم من تعلم القرآن و علمه۔ (بخاری و ابو داؤد، جمع الغواہ محدثیث: ۵۵۲۱)

تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔

(۲) قرآن پاک میں جو معانی و مطالب اور احکام بیان کئے گئے ہیں ان کے متعلق یہ سمجھے کہ یہ میرے رب کے احکام ہیں، احکام الحاکمین رب العالمین کے احکام سمجھ کر ان احکام کو معلوم کرے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے۔

اب رہی یہ بات کہ رب العالمین کے احکام کیا ہیں، قرآن پاک میں کون سے مضامین بیان کئے گئے ہیں، ہم کو اس کا علم کیسے ہو؟ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے اور خود مطالعہ کر سکتے ہیں تو معتبر تفسیروں کے مطالعہ کے ذریعہ احکام معلوم کریں ورنہ علماء کرام کے واسطہ سے درس قرآن وغیرہ کے ذریعہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

(۳) قرآن پاک کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی جو صفات اور قدرت الہیہ کے تذکرے ہیں نیز انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں ان کو بھی مستحضر رکھے اور ان مضامین کو بار بار پڑھے، یا سنتا کہ ایمان میں اضافہ و پختگی اور کمال پیدا ہو، لیکن یہ بات بھی اسی طرح حاصل ہوگی کہ یا تو خود معتبر تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرے یا درس قرآن وغیرہ کا نظام بنائے اور اس میں حق تعالیٰ کی صفات اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بغور سنبھالیں، یہ فرمان ہے مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا۔ افسوس کہ امت اور اصحاب تبلیغ بھی حضرت کے اس فرمان سے غافل ہیں۔

### مدارس قائم کیجئے خانقاہیں آباد کیجئے!

**فرمایا:** میواتیوں سے (جو بڑی حد تک تبلیغی کام سے مانوس اور پرانے ہو چکے تھے اس سے فرمایا کہ) تم اپنے ملک کے اندر سو مکتبوں کے درمیان ایک عربی مکتب اور خانقاہ کا ارادہ فرماؤ۔ چوبیس گھنٹہ وہ کام جو خانقاہوں اور مدارس میں ہوتا ہے، کرنا ہے اور اسی میں کچھ وقت لوگوں میں دعوت دینے میں۔

(ارشادات و مکتوبات حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص ۸۱، ۸۲)

**فائده:** حضرتؒ کے پیش نظر یہ تھا اور دعوت و تبلیغ کے ذریعہ وہ لوگوں میں یہ فکر پیدا کرنا چاہتے تھے کہ نبیوں والے سارے کاموں کو زندہ کیا جائے اور ”جمعیع ماجاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم“، یعنی تمام وہ باتیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لے کر آئے ہیں ان سب کو زندہ کیا جائے، اس کے لئے آپ نے دعوت و تبلیغ کی محنت کو ذریعہ بنایا۔

نبیوں والے کاموں کا دائرہ بہت وسیع ہے، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، احکام شرعیہ و دینیہ کی ترویج و تبلیغ، تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب، یہ سب نبی والے کام ہیں، اور یہ کام زندہ اور باقی رہتے ہیں مکاتب و مدارس اور خانقاہوں کے ذریعہ اور علماء و مشائخ کے واسطے سے، اس لئے حضرتؐ اپنے تمام دعوت کے ساتھیوں کو خصوصاً میواتیوں کو کہ اس وقت وہ لوگ زیادہ دعوت سے فسک اور حضرتؐ کے قریبی تھے، حضرتؐ نے ان سب کو خصوصی ہدایت فرمائی کہ مکتب بھی قائم کرو، عربی مدرسہ کی بھی فکر کرو، جو کام مدارس اور خانقاہوں میں ہوتا ہے ان سارے کاموں کو کرنا ہے، یہ سارے کام علماء و مشائخ سے ربط رکھنے اور ان کے مشورہ، ہی سے انجام پائیں گے، چونیں گھنٹے مدرسہ اور خانقاہ میں ہونے والے کاموں کی بھی فکر رکھنی ہے ان سب فکروں کے ساتھ دعوت کا کام بھی کرنا ہے، یہ حضرتؐ کے فرمان کا حاصل ہے اور یہی حضرتؐ کی فکر اور سوچ تھی۔

**رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبرؒ کو دعا تعلیم فرمائی**

یہ بھی نبیوں والا کام ہے

**فرمایا.....** حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبرؒ تعلیم دی کہ وہ نماز کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کریں:

**اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيرًا وَ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَ أَرْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.**  
(منhadīth ۲۹)

یعنی اے اللہ میں نے اپنے پڑا ظلم کیا، اور تیرے سوا کوئی گناہوں اور خطاؤں کا بخششے والا نہیں، پس تو محض اپنے فضل و کرم سے (جس میں گویا میرے استحقاق کو کوئی

دخل نہیں ہے) مجھے بخش دے اور مجھ پر حم فرماء، بخشنے والا اور حم کرنے والا یقیناً تو ہی ہے۔ ذرا سوچے حضور ﷺ نے یہ دعا حضرت ابو بکر صدیقؓ کو تلقین فرمائی جو اس ساری امت میں اکمل و افضل ہیں اور بالخصوص ان کی نماز خود رسول ﷺ کے نزدیک ایسی کامل ہوتی تھی کہ آپ نے ان کو خود امام بنایا، باوجود اس کے ان کو بھی یہ تعلیم فرمایا کہ نماز کے آخر میں اللہ پاک کے حضور اپنی کوتاہی اور عبادت کا حق ادا نہ ہو سکنے کا اعتراف اس طرح کیا کرو، اور اس طرح محض اس کے فضل و کرم سے مغفرت و رحمت کی درخواست کیا کرو!..... پھر کجا اوشما؟۔ (ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ص ۲۵ ملفوظ نمبر ۷)

**فائده:** رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی دعا سکھلانی، اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور دعا میں سکھلانا، یاد کرنا، نبیوں والا کام ہے۔ بہت سی حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو اذان، تشهد، استخارہ کی دعا وغیرہ اہتمام سے سکھائیں، بہتوں کو قرآن پاک سکھایا لہذا یہ کام جہاں بھی ہوں گے خواہ مسجد میں یا مکتب اور مدرسہ میں نبیوں والے ہی کام کہلا میں گے۔

## کلمہ اور نماز کسی اچھے قاری سے درست کرو

**فرمایا:** نماز اور کلمہ قاری سے درست کرو۔

(ارشادات و مکتوبات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ص ۳۶)

**فائده:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے فرمان کے مطابق دعوت و تبلیغ کا اصل مقصد ایمان کو پختہ کرنا ہے تاکہ ایمان کے پختہ ہونے سے دین کے سارے شعبے اور رسول ﷺ کا لایا ہوا پورا دین زندہ ہو جائے، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو، یا معاملات اور اخلاق و معاشرت سے۔

دین کے اہم شعبے عقائد و عبادات سے متعلق حضرت اپنے تمام تبلیغی احباب کو ہدایت فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نماز اور ان کا کلمہ کسی قاری سے درست کرو اور کیونکہ بڑی

تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ ان کو صحیح کلمہ اور اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، بہت سے لوگ جو نہ معلوم کتنے مرتبہ وقت لگا چکے ہیں، چلے بھی ان کے لگ چکے ہیں، لیکن ابھی ان کی نماز واذان درست نہیں، نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں الحیات، دعاء، نتوت، قرآن پاک اگر ان کا سنا جائے تو صحیح نہیں پڑھ سکتے، بس نکلنے ہی کو مقصود اصلی سمجھ رکھا ہے، حضرت اپنے تمام تبلیغی بھائیوں کو اہم ہدایت اور تنبیہ فرمائے ہیں کہ کسی ماہر قاری سے اپنے کلمہ اور نماز کو درست کرو، ہر مسجد میں اس کا نظم ہونا چاہئے، خواہ علیحدہ سے تجوہ ادار قاری مقرر کریں، یا امام صاحب ہی سے یہ کام لیں جس طریقہ سے فضائل کی تعلیم اور مشورہ وغیرہ کے لئے سب مل کر جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اسی طریقہ سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی اس اہم ہدایت پر عمل کرنے کے لئے سب کو اس کی کوشش کرنا چاہئے، اور مقام پر رہتے ہوئے ایسا نظام بنانا چاہئے کہ سب کی نمازیں اور قرآن پاک سنا جائے اور اس کی تصحیح کرائی جائے۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا یہ ارشادِ ماقبل میں گذر چکا ہے کہ جماعت میں نکلنے کے وقت میں قرآن پاک کو صحیح تجوید کے مطابق پڑھنے سکھنے کا موقع کم ملتا ہے، اپنے مقام پر آ کر اس کام کو اہتمام اور پابندی سے کرنا چاہئے، ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہونا چاہئے۔

افسوں کہ ہمارے دعوت کے احباب عمومی پیانہ پر اس کی کوشش نہیں کرتے، بس مشورہ، ملاقات، گشت، خروج تک ہی ان کی محنت محدود رہ گئی ہے اور صرف انہیں چند اعمال کو اصل مقصود بnar کھا ہے اور دوسری اہم چیزیں جن کی طرف حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے تاکید فرمائی تھی اس کی طرف سے غفلت اور بے توہینی ہے۔

تمام دعوت کے احباب اور ذمہ دار حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی تمام ہدایتوں کی طرف توجہ کریں اور اس کے مطابق نظام بنائیں، اللہ تعالیٰ آپؐ کی مد فرمائے۔

## اپنی نمازوں کو درست کیجئے! سیکھئے اور سنت کے مطابق ادا کیجئے!

رسی نماز منھ پر بھینک کر مار دی جاتی ہے، نماز ترقی روزگار، وسعت رزق، سب غموں کا علاج، لیکن بے سیکھ نہیں آسکتی۔

(ارشادات و مکتوبات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب <sup>حص</sup> ۲۱)

**فائده:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحب <sup>حص</sup> کا یہ ارشاد ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب <sup>حص</sup> نے طبرانی اور الترغیب کے حوالہ سے طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس کے اخیر میں یہ مضمون ہے:

”جو شخص نمازوں کو بری طرح پڑھے، وقت کو ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سیاہ رنگ میں بد دعاء دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا بر باد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا، اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منھ پر مار دی جاتی ہے۔“ (فضائل نماز، حدیث: ۲، ملحقة فضائل اعمال حص: ۳۲۶)

ایک حدیث میں ارشادِ نبوی ہے کہ آدمی ساٹھ برس تک نماز پڑھتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ کرتا تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ (فضائل نماز تشریع حدیث: ۵ حص: ۳۶۹)

نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ کام میں اخلاص سے یعنی اللہ کے واسطے ہی نماز پڑھی جائے اور نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں مثلاً التحیات، درود شریف وغیرہ خصوصاً قرآن پاک بالکل تجوید کے مطابق پڑھا جائے، کیونکہ عربی زبان میں معمولی غلطی سے بھی معنی بدل جاتے ہیں بلکہ کفریہ معنی ہو جاتے ہیں، مثلاً قرآن پاک میں ہے ”وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا“ (پ: ۳۰) اللہ تعالیٰ فرمار ہا ہے کہ ہم نے سات آسمان بنائے، اب اگر بنینا میں الف کو حذف کر کے بنین پڑھ دیا جائے تو ترجمہ ہو جائے گا ”عورتوں نے سات آسمان بنائے“ کیا یہ کلمہ کفریہ نہیں ہے؟ عربی زبان شاہانہ زبان

ہے، جنت کی زبان ہے، معمولی غلطی سے معنی بدل جاتے ہیں، سین سے ”سیف“ کے معنی تلوار کے ہیں، اور صاد سے ”صیف“ کے معنی ”گرمی“ کے ہیں، ”قلب“ کے معنی ”دل“ کے ہیں اور چھوٹے کاف سے ”کلب“ کے معنی ”کتے“ کے ہیں لیکن قراءت قرآن میں اس قسم کی غلطیوں سے بچنے کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے حالانکہ نہ معلوم اس طرح کی غلطیوں سے کتنے معنی بدل جاتے ہوں گے، اس لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنے اور نماز کے جملہ ارکان کو صحیح طریقہ کے مطابق ادا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

الغرض قبولیت صلواۃ کے لیے (۱) اخلاص بھی ضروری ہے (۲) اور نماز میں پڑھی جانے والی چیزوں کا درست ہونا بھی ضروری ہے (۳) اور نماز کے ارکان کی ادائیگی یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کی ہیئت کا سنت کے مطابق ہونا (۴) اور دل سے اللہ کی متوجہ رہنا بھی ضروری ہے (۵) اور اس سب کے ساتھ پوری نماز مسئلہ کے موافق ہونا بھی شرط ہے، ایسی ہی نماز خشوع والی نماز کہلاتی ہے جو عند اللہ مقبول ہوتی ہے ورنہ خطرہ ہے کہ وہ نماز سیاہ رنگ میں بد دعاء یتی ہوئی چلی جائے۔

رسول اللہ ﷺ کی ایک دعا ہے: اللہُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الصَّلَاةِ۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میراوضو اور میری نماز کو کامل کر دیجئے، اس سے معلوم ہوا کہ وضو اور نماز کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، ناقص نماز کے متعلق ہی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عند اللہ مقبول نہیں ہوتی، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر پھینک کر مار دی جاتی ہے، بعض صحابہ کو آپ نے جلدی خلاف سنت نماز پڑھتے دیکھا تو نماز کے اعادہ کا حکم دیا اور فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، ایک صحابی نے اس حال میں نماز پڑھی کہ ان کا لباس ٹھنڈوں سے نیچھا، آپ نے ان کو بلا کر فرمایا، پھر سے وضو کرو اور پھر سے نماز پڑھو، اور ارشاد فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِلُ صَلَاةً رَجُلٍ مُسْبَلٍ، ”کما اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کا

لباس ٹخنوں سے نیچے ہو۔ (ابوداؤ و شریف)

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اپنے تمام بھائیوں اور دعوت کے تمام ساتھیوں کو اپنی نمازوں کو درست کرنے کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے، نماز درست اور کامل کیسے بننے کی حضرتؒ فرمائے ہیں بے سیکھے نہیں آسکتی، اس کو سیکھنا پڑے گا پوری نماز مسئلہ کے موافق ہو، رکوع سجدہ وغیرہ سب سنت کے مطابق ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی جتنی سنتیں ہیں ان کا علم ہو، اسی کے مطابق نمازادا کی جائے، نماز کے مکروہات کا بھی علم ہوتا کہ اس سے بچا جائے، اس کے ساتھ ہی دل میں بھی خشوع کی کیفیت اور کامل اخلاص واستحضار ہو، ایسی ہی نماز کامل نماز ہوگی جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا کہ سب غمتوں کا علاج اور رزق میں برکت و وسعت کا ذریعہ بننے گی، لیکن سیکھے بغیر یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لئے ضروری ہے کہ ائمہ اور قراءے سے نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں درست کی جائیں، علماء سے نماز کے مسائل و آداب سیکھے جائیں اور نماز کی عملی مشق کی جائے اور مشائخ سے اخلاص اور خشوع فی الصلوٰۃ کا طریقہ معلوم کیا جائے اور ان سب چیزوں کا بار بار مذکورہ کیا جائے۔

## خانقاہ اور بیعت کے تعلق سے تبلیغی کام کرنے والوں کو

### حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی اہم ہدایت

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ تبلیغی کام کرنے والوں کو ہدایات کرتے ہوئے ایک خاص خط میں تحریر فرماتے ہیں:

”چند باتوں کی طرف آپ صاحبان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں ..... (دعوت کے ساتھی کسی شیخ سے) جو بیعت ہیں اور ان کو بیعت کے بعد جو ذکر بتالیا جاتا ہے اس کو نہ

رہے ہیں یا نہیں؟ جن کو بارہ تسبیحات بتائی ہیں وہ پابندی سے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ جو ذکر بارہ تسبیح کر رہے ہیں ان کو آمادہ کرو کہ وہ ایک ایک چلہ رائے پورجا کر (حضرت مولانا عبدالقدار صاحب رائے پوری) کی خدمت اور ان کی خانقاہ میں) گزاریں۔

(مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ص ۱۳۷، جمع کردہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی)

## ہمارے اس کام کا اصل مقصد

**فرمایا:** ہمارا مقصد رسول ﷺ کے لائے ہوئے طریقوں کو زندہ کرنا ہے،

(ارشادات و مکتوبات ص ۲۲) وہ شریعت، طریقت، سیاست ہے۔

**فائده:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اس دعوت و تبلیغ سے ہمارا مقصد رسول ﷺ کے لائے ہوئے طریقوں کو زندہ کرنا ہے یعنی دعوت و تبلیغ سے مقصود محض گشت، فضائل، کی تعلیم، نکنا، چلہ لگانا یا اصل مقصد نہیں بلکہ مقصد کا ذریعہ ہے، اصل مقصد پورے دین کو زندہ کرنا اور زندگی کے ہر شعبہ میں آپ ﷺ کے لائے ہوئے طریقوں اور سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اور یہ موقوف ہے تین چیزوں پر شریعت، طریقت، سیاست، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔

شریعت سے مراد وہ احکام شرعیہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے، مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، تجارت، ملازمت، صنعت و حرفت، زراعت وغیرہ کے شرعی احکام اور زندگی میں پیش آنے والے مختلف حالات مثلاً خوشی و غمی میں، رسول اللہ ﷺ کا طریقہ اور آپ کی سننیں نیزاً ایک دوسرے کے حقوق کی معرفت اور اس کی ادائیگی، یہ سب شریعت ہے۔

طریقت سے مراد وہ احکام شرعیہ ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے مثلاً قلب کو رذائل اور باطنی عیوب جیسے کہیہ، بغض، حسد عداوت، بدگمانی، بد臧گاہی، غیر اللہ کی ناجائز محبت سے اپنے باطن کو پاک و صاف کرنا اور فضائل و محسن سے آراستہ کرنا، مثلاً اللہ کی محبت، اللہ واسطے اہل اللہ سے محبت کا ہونا، دل میں عبادت کا ذوق و شوق ہونا، بجائے بخل کے

سخاوت کا جذبہ ہونا، فکر آخرت ہونا اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا وغیرہ ذلک۔

یہ سارے امور طریقت کے دائرہ میں آتے ہیں جس کو تزکیہ و تصوف اور باطنی اخلاق سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے اور یہ دونوں فتنمیں یعنی شریعت و طریقت کے دائرہ میں آنے والے جملہ امور عموماً وہ ہیں جن کا تعلق انفرادی و معاشرتی زندگی سے ہے۔

ان دو کے علاوہ ایک تیسری چیز سیاست ہے جس کا تعلق خاص طور پر اجتماعی زندگی سے ہے، اسلام کے بقاء و تحفظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں اور آپ کی شریعت کو باقی رکھنے کے لیے حدود شرع میں رہتے ہوئے سیاست سے جڑنا اور اس سے متعلقہ ضروری کام میں حصہ لینا بھی ہمارے مقاصد میں سے ہے مثلاً خدا نخواستہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی قانون پاس ہو، مدارس و مساجد کے خطہ میں پڑھانے کا اندیشہ ہوا، اذان اور دیگر شعائر اسلام پر پابندی عائد کی جانے لگے، علماء اسلام اور نوجوانان اسلام کو ظلم جیلوں میں بند کیا جانے لگے، فرقہ وارانہ فسادات ہونے لگیں، تبلیغی کام اور اس جیسی دینی تحریکوں پر حکومت کی نگاہیں خراب ہونے لگیں، مسلم پرنل لا میں دست درازی کی جانے لگے، وغیرہ ذلک، ان سب کے سد باب کے لیے ضرورت و حالات اور مصلحت کے مطابق سیاست و حکومت اور ایکشن وغیرہ میں بھی حدود شرع میں رہتے ہوئے حصہ لینا ضروری ہے۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ فرماتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کی حفاظت اور ان کو زندہ کرنا ہے جو تین چیزوں پر موقوف ہے، شریعت، طریقت، سیاست۔

شریعت کے ذریعہ احکام شرعیہ ظاہرہ محفوظ ہوں گے اور یہ کام علماء اور اہل مدارس کے کرنے کا ہے، الحمد للہ علماء اور اہل مدارس کے ذریعہ یہ کام ہو رہا ہے۔

طریقت کے ذریعہ شریعت کے احکام باطنہ یعنی تزکیہ لفوس اور تصفیہ قلوب کا کام ہو گا اور یہ کام خالقا ہوں گی اور اس کے علاوہ بھی صوفیاء اور مشائخ کے ذریعہ الحمد للہ ہو رہا ہے۔

تیسرا کام جو سیاست و حکومت سے متعلق ہے اس کے بغیر شریعت کے سارے احکام محفوظ نہیں رہ سکتے، اس لیے ضرورت و مصلحت کے مطابق سیاست و حکومت میں حصہ لینا اور اس میں دخیل بننا بھی ضروری ہے، جس کی طرف حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ر</sup> نے توجہ دلائی ہے۔

یہ تینوں کام وہ ہیں جن کو مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ر</sup> اپنے اصل کام اور اصل مقصد کے لیے ضروری قرار دے رہے ہیں، ان تینوں کو زندہ رکھنا اور باقی رکھنا یہ اہل تبلیغ کا مقصد ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعہ یہ تینوں شعبے زندہ ہوں گے اور ان کے ذریعہ پورا اسلام محفوظ رہ سکے گا، اس لیے ہر داعی اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اور اہل مدارس کو اپنے مقصد کی تکمیل کرنے والا سمجھے ان کے کام کو اپنا کام سمجھے، صوفیاء اور مشائخ اور خانقاہوں کو بھی اپنے کام کا ایک جزء سمجھے، اور بقدر ضرورت واستطاعت حدود شرع میں رہتے ہوئے سیاست و حکومت میں بھی حصے لے، مدرسے بھی ہمارے ہیں، خانقاہیں بھی ہماری ہیں، اور حکومت کے ایوانوں کو بھی اپنا بنا نا اور اس کی فکر کرنا ہے، ہماری دعوت و تبلیغ کے ذریعہ یہ سارے شعبے زندہ ہونے چاہئے، یہ ہے دعوت و تبلیغ کا اصل مقصد جس کو مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ر</sup> نے مختصر الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔

## اب تحریر و تصنیف کے ذریعہ بھی

### دین کے جملہ احکام کی دعوت دی جائے

ایک نیازمند سے (جن کو مولانا کے تبلیغی کام سے بھی تعلق تھا اور اس کے علاوہ تحریر و تصنیف ان کا خاص مشغله تھا) ایک دن فرمایا:

”میں اب تک اس کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس تبلیغی کام کے سلسلہ میں کچھ زیادہ لکھا پڑھا جائے، اور تحریر کے ذریعہ اس کی دعوت دی جائے، بلکہ میں اس کو منع کرتا رہا

لیکن اب میں کہتا ہوں کہ لکھا جائے اور تم بھی خوب لکھو، مگر یہاں کے فلاں فلاں کام کرنے والوں کو میری یہ بات پہنچا کر ان کی رائے بھی لے لو، (چنانچہ ان نامزد حضرات کو حضرت مولانا کی یہ بات پہنچا کر مشورہ طلب کیا گیا، ان صاحبان نے اپنی یہ رائے ظاہر کی کہ اس بارے میں اب تک جو طرزِ عمل رہا ہے وہی اب بھی رہے، ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے)۔

حضرت مولانا کو جب ان حضرات کی یہ رائے پہنچائی گئی تو فرمایا پہلے ہم بالکل کسی پرسی کی حالت میں تھے، کوئی ہماری بات سنتا نہیں تھا اور کسی کی سمجھ میں ہماری بات آتی نہیں تھی، اس وقت یہی ضروری تھا کہ ہم خود ہی چل پھر کرو گوں میں طلب پیدا کریں اور عمل سے اپنی بات سمجھائیں، اس وقت اگر تحریر کے ذریعہ عام دعوت دی جاتی تو لوگ کچھ کا کچھ سمجھتے اور اپنے سمجھنے کے مطابق ہی رائے قائم کرتے، اور اگر بات کچھ دل کو لگتی تو اپنی سمجھ کے مطابق کچھ سیدھی کچھ الٹی اس کی عملی تشکیل کرتے اور پھر جب نتائج غلط نکلتے تو ہماری اسکیم کو ناقص کہتے، اس لیے ہم یہ بہتر نہیں سمجھتے تھے کہ لوگوں کے پاس تحریر کے ذریعہ ہماری دعوت پہنچے..... لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے اب حالات بدل چکے ہیں، ہماری بہت سی جماعتیں ملک کے اطراف میں نکل کر کام کا طریقہ دھلا کچلی ہیں، اور اب لوگ ہمارے کام کے طالب بن کر خود ہمارے پاس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے آدمی دے دیئے ہیں کہ اگر مختلف اطراف میں طلب پیدا ہوا اور کام سکھانے کے لیے جماعتوں کی ضرورت ہو تو جماعتیں بھیجا سکتی ہیں۔

تو اب ان حالات میں بھی کسی پرسی والے ابتدائی زمانہ ہی کے طریقہ کار کے ہر ہر جزء پر مجھے رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تحریر (یعنی تصنیف و تالیف) کے ذریعہ بھی دعوت دینی چاہئے۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب عص: ۱۱۵، ملفوظ نمبر: ۱۳۹)

## حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی تجویز اور خواہش

حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلویؒ (جو شروع سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے ساتھ دعوت کے کام میں پورے طور پر جڑے ہوئے تھے اور حضرت کے معتمد بھی تھے وہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں):

حضرت موصوف (مولانا محمد الیاس صاحبؒ) چاہتے تھے کہ ..... ہر طبقہ کے مناسب علیحدہ علیحدہ رسائل مرتب کرائے (جائیں) اور جو رسالہ جس طبقہ کے لیے لکھوا یا خصوصیت سے اسی طبقہ میں اس کو پہنچایا گیا۔

اس تفصیل کے بعد یہ سمجھنا کہ اس کام کے صرف یہ ۵ نمبر ہیں، انہیں کی جانب دعوت دینی ہے، اور انہی کو دنیا میں پھیلانا ہے، انہائی غلط فہمی ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ دین کے لیے جدوجہد کرنا، اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا، اس راہ میں اپنے جان و مال خرچ کرنا جو دین کے عروج و فروغ کے لوازم سے تھا اور ملت سے بالکل مفقوود ہو گیا تھا، اس سنت کو از سرنو جاری کیا جائے، اور ابتدائی کام کے لیے یہ ۵ نمبر مقرر کئے گئے تھے، جن کے ذریعہ پورے دین کی طرف توجہ ہو، اور تمام دینی امور عروج و فروغ پائیں۔

حضرت اقدس موصوف نور اللہ مرقدہ اس سلسلہ میں مجھ سے بہت سچھ لکھوانا چاہتے تھے، اپنی صحت کے زمانے میں بھی ان کے تذکرے رہتے تھے اور آخری مرض میں بار بار ان کی تکمیل اور اشاعت کی تاکید فرماتے رہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ تمام چیزیں شائع ہو کر ان کے کام کا جزء بن جائیں اور کام میں کوئی سقلم و خرابی باقی نہ رہے۔

حضرت اقدس موصوف چاہتے تھے کہ اسلامی امور کو سلیمانی ہوئی صاف عبارت میں قرآن و حدیث سے ایسے انداز پر مرتب کر دیا جائے کہ دماغوں

کوان کو قبول کرنے میں الجھن نہ ہو، اور دل و دماغ ان امور کو بخوبی اپنالیں۔

(اسلام کا تبلیغی و اصلاحی نظام ص: ۲۰۸-۲۰۹)

فائدہ: احقر جامع و مرتب عرض کرتا ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی تجویز یہ تھی کہ امت کے ہر طبقہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی پیغام اور آپ کی تعلیم ہو اس طبقہ تک اس دعوت و تبلیغ کے ذریعہ پہنچا دیا جائے، اور اس طرح پورا دین زندہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت کے ہر طبقہ کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے ذریعہ اعلان کرایا گیا ”فُلْيَا أَيَّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ (پ ۹ سورہ اعراف) کہ آپ فرمادیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سب لوگوں میں امت کے تمام طبقات آ جاتے ہیں، حاکم بھی، محکوم بھی، علماء بھی، عوام بھی، تاجر بھی، کاشتکار بھی، باعث والے بھی، مالدار بھی، غریب بھی، ڈاکٹر، انجینئر اور دیگر علوم و فنون کے ماہرین بھی..... آپ سب کے نبی ہیں اور سب کے لیے آپ کی ہدایات اور واضح تعلیمات ہیں، جو کتاب و سنت میں موجود ہیں۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ امت کے ہر طبقہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات جو بھی ہوں اس طبقہ تک پہنچانا چاہتے تھے، اور غالباً اسی غرض سے مختلف رسائل بھی لکھوانا چاہتے تھے، الحمد للہ ہر زمانہ میں علماء کرام اس کام کو کرتے چلے آئے ہیں، ناسیمین رسول، اہل علم نے ہر زمانہ میں ہر طبقہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی مختلف انداز سے کوششیں کی ہیں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی بھی یہی کوشش تھی۔

## تبلیغ میں تقریر و تحریر کی بھی ضرورت

ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:

تبلیغی امور میں تحریر، تقریر اور عملاً ہر پہلو سے کوشش کرتے رہا کریں، دین کی

تکمیل تبلیغ کے فروع کے بغیر ناممکن ہے۔ (مکاتیب مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۹۱)

**تشریح:** حضرتؐ نے اپنے اس مختصر ارشاد میں تبلیغ کے مختلف انواع اور اس کے مختلف طریقوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اب سمجھنا چاہے کہ تبلیغی امور کیا ہیں اور ان کی ادائیگی کے طریقے کیا ہیں۔

تبلیغی امور کا دائرة بہت وسیع ہے، تبلیغ فضائل کی بھی ہوتی ہے، مسائل کی بھی، اصول کی بھی، فروع کی بھی، عقائد کی بھی احکام کی بھی، ایمان کی بھی اسلام کی بھی، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، یہ سب تبلیغی امور اور اس کے انواع ہیں، ہر شخص ہر تبلیغ نہیں کر سکتا اور ہر ایک کے اندر ہر نوع کی تبلیغ کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، اور بہتوں کے اندر ہر نوع کی تبلیغ کی صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، سب قسموں کی تبلیغ ایک آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے تقسیم کا ضروری ہے، لیکن تبلیغ کے سارے انواع کا امت میں پایا جانا ضروری ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ“ کہ اے نبی آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے سب کی تبلیغ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس میں فضائل و مسائل، ترغیب و ترغیب کے مضامیں، احکام شرعیہ فہریہ سب ہی داخل ہیں، فضائل کی تبلیغ آسان ہے لیکن احکام و مسائل خصوصاً دقيق مسائل کی تبلیغ اور ان کی حفاظت کتابوں کے ذریعہ مدرسیں کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ تبلیغ صرف علماء ہی کر سکتے ہیں یعنی درس و مدرسیں۔

پھر تبلیغ کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں جن کی طرف حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؐ نے اشارہ فرمایا ہے مختصر یہ کہ تبلیغ تقریر کے ذریعہ بھی ہوتی ہے یعنی زبان کے ذریعہ اور تبلیغ تحریر کے ذریعہ بھی ہوتی ہے یعنی مضامین و مقالات اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ۔ اور تبلیغ اپنے عمل کے ذریعہ بھی ہوتی ہے، یعنی اپنے عمل سے ایسا نمونہ پیش کرنا جس سے دوسروں کو عبرت ہو، اور جس کو دیکھ کر دوسرا لوگ بھی عمل کرنے لگیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طرح کی تبلیغ فرمائی ہے، تقریر کے ذریعہ بھی

یعنی زبان کے ذریعہ جس میں منکرات پر نکیر کرنا، وعظ و تذکیر کرنا، خطبہ دینا، تقریر کرنا سب شامل ہے، خواہ جمعہ کے دن یا مختلف جلسوں میں یا خاص حالات میں، اسی طرح تحریر کے ذریعہ بھی، آپ نے دعوت دی، حکام کو خطوط لکھے، مختلف موقعوں پر دینی امور اور احکام شرعیہ املاء کرائے اور دوسروں تک بھجوائے، آپ کے بعد صحابہ و تابعین نے اس عمل کو زندہ رکھا، اور عمل کے ذریعہ بھی آپ نے تبلیغ فرمائی۔ امت کو چاہئے کہ تبلیغ کے تمام انواع کو زندہ رکھے اور سب طریقوں کو اختیار کرے کیونکہ ضرورت سب کی ہے، اسی وقت دین مکمل طور پر محفوظ رہ سکے گا۔ ورنہ نہیں۔

## اللہ ایسی تقریروں سے اور ایسے جلسوں سے امت کی

### حافظت فرمائے

**فومایا:** بس تقریر رہ گئی، تحریر رہ گئی، جلسے شیطانی دھوکہ ہیں۔

(ارشادات و مکتبات ص: ۲۶)

امت محمدیہ کے امراض کہنہ میں عملی چیزوں کا بے محل اور بے ضرورت تقریروں پر اکتفا کرنا ہے۔ (ارشادات و مکتبات ص: ۳۳)

**تشريع:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے امت کو جس بات سے آگاہ اور چوکنا فرمایا تھا وہ آج بکثرت دیکھنے میں آ رہی ہیں، لوگوں نے بلکہ بہت سے مدرسے والوں اور مقررین نے بس تقریر اور جلسہ ہی کو مقصود بنارکھا ہے، اصلاح اعمال اور اصلاح اخلاق کی طرف کوئی توجہ نہیں، حیرت کی بات ہے کہ جلسہ ہوا سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جس میں قصہ معراج اور فضیلت نماز اور اس کے ترک پر وعید کا بیان ہوا، لیکن اسی جلسے کے شرکاء کی بڑی تعداد نماز چھپوڑ نے والی، جلسہ چلا دو بجے رات تک اور نماز نجمر اکثر لوگوں کی غائب، جلسہ ہوا اصلاح معاشرہ کا جس میں پرده کا بیان ہوا، اور اسی جلسے میں اٹیج میں مرابقہ جوان لڑکیوں نے نظمیں نعمتیں پڑھیں، تصویر کشی ہوئی، ایسے ہی جلسے اور

ایسی ہی تقریریں و تحریریں بلاشبہ شیطانی دھوکہ ہیں، ان سے اجتناب اور ایسے جلسوں کی اصلاح ضروری ہے جن کا کوئی مفید نتیجہ حاصل نہ ہو۔

ورنہ ایسے جسے جو واقعۃ حدود شرع کے ماتحت ہوں جن سے معاشرہ کی اصلاح اور منکرات پر نکیر ہوتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت کو سنایا جاتا ہو، ایسی تحریریں جو قرآن و حدیث کی ترجمانی اور اصلاح امت کا کام کرتی ہوں، نہ صرف مفید بلکہ ضروری ہیں، دوسرے موقع پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے خود اس کی ہدایت اور تاکید فرمائی ہے۔ (جیسا کہ ابھی ما قبل میں گذر رہا)

## تقریر کے ساتھ عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت

ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:

یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پلک (عوام) کے سامنے عملی نمونہ نہ ہو تو محض منبروں پر کی تقریر عمل پر پڑنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، اگر تقریر کے بعد عمل پر پڑ جانے کی اسکیم نہ ہو تو عوام کے اندر ڈھٹائی اور بے ادبی کے لفظ بولنے کی عادت پڑ جائے گی۔

(مکاتیب مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص: ۶۸)

**فائدة ۵:** تقریر کے ساتھ عملی نمونہ کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ علماء کرام اپنی تقریروں میں جو باتیں بیان فرمائیں عوام الناس اس کے مطابق علماء کی نگرانی میں عمل شروع کر دیں، اور حسب ضرورت علماء سے استفسار کرتے رہیں، اور مشورے لیتے رہیں۔ مثلاً عبادات کے متعلق کوئی مضمون بیان کیا کہ نمازوں کو درست کرنے کے لیے اذان اور قرآن پاک کا صحیح ہونا ضروری ہے، علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، کسی کے انتقال کے بعد اس کا ترکہ ورثاء کے درمیان تقسیم کرنا ضروری ہے..... ان سب عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ باہم مشورہ سے عمل شروع کر دیں اور علماء کرام سے پوچھ کر عمل کریں۔ تب جا کر تقریر کا پورا فائدہ لوگوں کو ہوگا، واللہ اعلم۔ (مرتب)

## کلکٹر صاحب و کمشنر صاحب کو داعی بننے کی تلقین

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ ایک مکتب میں تحریر فرماتے ہیں:

بندہ نے تو دین کے کام کا ارادہ کر رکھا ہے، ہندوستان ہو یا عرب، اس واسطے.....  
جناب کی خدمت میں دو باتیں ضروری (عرض کرنی) ہیں، غور سے سن لیں، ایک یہ کہ  
خاکسار نے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کی خدمت میں ”گوڑگانوہ“ کے ڈپٹی کمشنر  
صاحب کو جو کہ مسلمان ہیں، بھیجا، حضرت نے فرمایا مذہبی امور کی پابندی اور فروع پر اور  
اس کا خود پابند ہونا، اور ہر طبقہ کو حسب حیثیت توجہ دلانا ہر مسلمان کا اہم ترین فرض ہے اور  
یہ خیالی رواجی فرائض نہیں بلکہ ایسا فرض ہے جس میں حق تعالیٰ کے یہاں سے سوال ہوگا  
لہذا آپ خود اور دوسرے لوگوں کو جو اس کے اہل ہوں اس پر آمادہ فرمادیں، سرکاری  
سب عملہ میں عموماً اور کلکٹر صاحب خصوصاً اس بات پر آمادہ ہوں اور سمجھیں کہ مذہب کی  
جز قرآن ہے کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ مذہب وہ چیز ہے جو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم)  
آسمان سے لے کر آئے۔

اس آسمانی دین کو اپنی عقل کی کدورت سے خالص رکھتے ہوئے اپنے کو کاربند  
بناؤیں اور اس کی ہر ہر چیز کی ترویج کا ارادہ کریں اور ان سب کی جزو قرآن ہی ہے، اس کا  
خصوصاً اہتمام کریں۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۱۵۰)

**فائده:** حضرتؒ نے اپنے اس مکتب میں کلکٹر صاحب اور ان جیسے سمجھدار  
پڑھے لکھے طبقہ مثلاً ڈاکٹر، انجینئر صاحبان اور دیگر عہدیدار احباب کو توجہ دلائی ہے  
خصوصیت کے ساتھ قرآن شریف کی طرف کہ اس کا اہتمام کریں، اہتمام کرنے میں  
دونوں باتیں شامل ہیں، الفاظ بھی، معانی و مطالب بھی، مطلب یہ کہ اس کے الفاظ کو  
پڑھنے پڑھانے کا روانج دیں، اس کی تلاوت کریں، اور ساتھ ہی اس کے معانی و مطالب  
کو معلوم کر کے حق تعالیٰ کا پیغام سمجھیں کہ یہی مذہب کی جڑ ہے اور اس کو اپنی زندگی میں

داخل کریں، اور اس کا رواج دیں۔ اور یہ بات درس تفسیر و درس قرآن کے حلقات قائم کئے بغیر حاصل ہونا مشکل ہے۔ اس کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اہل حق ماہر علماء کے درس قرآن کے حلقات قائم ہوں، اہل حق نہ کریں گے تو اہل باطل کریں گے، جس سے دین کو نقصان پہنچے گا۔

## کافروں کے حقوق کو پہچاننے اور ادا کرنے کی فکر و دعاء

ایک دن دعا کرتے ہوئے فرمایا:

”اے اللہ! کافروں پر تیرے بندے ہونے کی حیثیت سے جوش شفقت اور جو ترحم ہم میں ہونا چاہئے اور اس کی وجہ سے ان کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہوں ان کی ادائیگی کی توفیق کے ساتھ ان کے کفر سے ہمارے قلب میں پوری پوری نفرت اور کراہت پیدا کر،۔۔۔“ (ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۲۷، ملفوظ نمبر: ۸۷)

**فائده:** حضرت کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ کافروں کے کفر سے تو پوری طرح دل میں نفرت ہونا چاہئے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا یہ جذبہ بھی ہونا چاہئے کہ ان کے حقوق جو ہم پر عائد ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی ان کے ایمان لانے کی فکر کی جائے۔

## ضرورت کے وقت کافروں سے بھی ملوا اور ان کی خدمت کرو

**ادشاد فرمایا:** کفار کی خدمت مادی اس خیال سے کرو کہ اس کے ذریعہ سے دعوت حق کے پیش کرنے میں سہولت ہو، حق (کی اشاعت) کی طمع میں کفار تک کی بھی مادی خدمت کرو، کیونکہ دنیا اس کی جنت ہے، اس کے ذریعہ سے تم سے اس کو محبت ہوگی، اختلاط (یعنی کفار سے ملنا جلنا بھی ہونا چاہئے) حق کی طمع میں۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۶۸)

**فائده:** اس ملک میں اس وقت اسلامی حکومت نہیں، حکومت کی باگ ڈور عام طور پر غیر مسلموں کے قبضہ میں ہے، حضرت فرمائے ہیں کہ ہر حال میں تم کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، کام میں رکاوٹ نہ ہو، حق کی اشاعت میں کوئی مانع نہ پیش آئے، اس ضرورت و مصلحت سے حسب ضرورت کفار سے بھی ربط رکھو، ان کی مادّی خدمت مثلاً کوئی احسان کردو، ہدیہ دے دو، کیونکہ وہ تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ایسا کرنے سے ان کو تم سے محبت ہو گی اور وہ تمہارے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، کوئی رکاوٹ پیش آئے گی تو تمہاری اعانت کریں گے، ساتھ ہی ان کی ہدایت اور تبلیغ اسلام کی نیت سے بھی ان کی خدمت کرو۔

کافروں سے تعلق رکھنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں (۱) معاملات (۲) مواساة (۳) مدارات (۴) موالات، اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

## چھ نمبر میں اس کو بھی شامل کرلو

### کافروں کو اسلام میں داخل کرنے کی بھی تدبیر کچھ

**ارشاد فرمایا:** غیر قوموں کے ساتھ وہ بر تاؤ کرو، جو اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں، تا کہ وہ اسلام میں داخل ہوں، اس کو بھی نمبر میں (یعنی دعوتی اصول اور تبلیغی چھ نمبر میں) داخل کرو۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۵۶)

**تشريع:** یہ تو یقینی بات ہے کہ اسلام توارے نہیں بلکہ حسن اخلاق اور صفائی معاملات سے پھیلا ہے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ اسلام میں تعصّب نہیں، دوسرا قوموں کے ساتھ ہمارا عادلانہ و منصفانہ بر تاؤ وہ ہونا چاہئے جو ہم اپنے مسلم بھائیوں سے کرتے ہیں، یہی چیز غیروں کو اسلام سے قریب کرے گی، بلکہ اسلام میں داخل کرے گی، ابتدائی دور میں بھی اسلام ایسے ہی پھیلا ہے۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ اپنے تمام تبلیغی احباب کو اسی امر کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی تمہارا برتاؤ اور حسن سلوک ایسا ہونا چاہئے جیسا کہ تم اپنے بھائیوں سے کرتے ہو، ایسا اس لیے کرو کہ ہمارے نمہب کی یہی تعلیم ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے، دوسرے اس نیت سے بھی کہ ہمارے اس برتاؤ سے وہ اسلام کے قریب ہوں اور اسلام کی خوبیاں مشاہدہ کر کے خود اسلام میں داخل ہو جائیں۔

یہ اتنی اہم اور ضروری ہدایت ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے فرمان کے مطابق تبلیغی نمبروں یعنی دعویٰ اصولوں میں اس کو بھی شامل کر لینا چاہئے، خواہ اس طور پر کہ مستقل ایک نمبر کا اضافہ کیا جائے، یا جس نمبر میں اس کا شامل کرنا مناسب ہو (مثلاً چوتھا نمبر اکرام مسلم) اس میں شامل کر دیا جائے اور اکرام مسلم میں مسلم کی قید، قید اتفاقی سمجھ کر اکرام انسان کو پیش رکھا جائے۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے اس فرمان سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے اور اسلام کی تبلیغ سے غافل نہ تھے بلکہ آپ کے پیش نظر اور آپ کے نشانہ میں غیر مسلم حضرات برادران وطن بھی تھے کہ ان کو اسلام میں داخل کیا جائے اور اس کی تدبیر حضرت کے نزدیک یہ تھی کہ ان کے ساتھ مسلمان ہمدردی اور حسن سلوک کا وہ برتاؤ کریں جو مسلمانوں سے کیا کرتے ہیں۔

**فائده:** غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اور برتاؤ کی چند شکلیں ہیں سب جائز ہیں، علاوہ ایک کے جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

(۱) **معاملات:** یعنی غیر مسلموں سے خرید و فروخت، شرکت میں کاروبار کرنا، ان سے سامان خریدنا، بیچنا، قرض کالین دین دین سب جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔

(۲) **مواساة:** یعنی غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی و خیرخواہی کا برداشت کرنا مثلاً وہ محتاج ہے، تو اس کی حاجت پوری کرنا پڑو سی ہے، تو اس کی خبر گیری کرنا، وہ پریشان حال ہے تو اس کی مدد کرنا، اس کو قرض دینا، بیکار ہے تو اس کی عیادت کرنا، پڑو سی ہونے کی بناء پر اس کو ہدیہ یہ دینا یہ سب بھی جائز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نیز صحابہ کرام کا اس کے مطابق عمل بھی رہا ہے۔

(۳) **مداداۃ:** اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کا کوئی معزز شخص ہمارے پاس آئے یا اس سے کبھی سابقہ پڑے، خواہ وہ کوئی بھی ہو مثلاً سیاسی لیڈر، افسر، حاکم، عہدیدار، حضور پاک کا فرمان ہے جب کسی قوم کا معزز شخص تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرم کرو۔

(۴) **موالاقۃ:** کامطلب ہوتا ہے غیر مسلموں سے قبلی دوستی، دلی میل و محبت کہ ان کو اپنارازدار بنالے، ان کے مذہبی امور اور تھواروں شریک ہونے لگے، کفر و اسلام اور کافر و مونمن کی تفہیق ختم کر دے، یہ ناجائز اور حرام ہے قرآن پاک میں مختلف موقعوں میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رفتہ رفتہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے، دھیرے دھیرے غیر شوری طور پر تمہارے اندر بھی کفر و شرک سراحت کر جائے گا اور تم کو پتہ بھی نہ چلے گا۔

## غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ سے متعلق حضرت مولانا

### محمد الیاس صاحبؒ کا جذبہ

مولانا احسان الحسن کاندھلویؒ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے معتمد بھی تھا اور شروع سے رفیق سفر اور صاحب علم بھی، وہ تحریر فرماتے ہیں:

حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ دین کے محض بعض شعبوں کو نہیں؛ بلکہ پورے دین کو دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؐ کی زندگی کا پورا نقشہ

سامنے لانا چاہتے تھے۔

حضرت اقدس مولانا شاہ محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا اصل داعیہ غیر مسلموں میں کام کا تھا، اس لیے کہ انبیاء کرام کی بعثت کا اولین مقصد یہی کام تھا اور اسی کام سے ابتداء کی گئی تھی۔ مگر پھر خود مسلمانوں میں احساس عمل اور جذبہ دعوت پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں میں اصلاحی کام اس نجح پر شروع کیا گیا کہ ان میں دین کے لیے جدوجہد کا احساس اور دین کی دعوت کا جذبہ پیدا ہو۔

(اسلام کا تبلیغی اور اصلاحی نظام ص: ۲۰)

## اس کام کے ذریعہ غیر مسلموں کے اسلام میں داخل

### ہونے کی توقع و تمنا

**ارشاد فرمایا:** مجھے بڑی امید ہے کہ اگر اس کو (یعنی اس دعوت و تبلیغ کے کام کو کما حقہ) لے کر کھڑے ہو جاؤ تو گاؤں کے گاؤں غیر مسلم کثرت سے مسلمان ہوں گے، اسلام میں ایک ذاتی حسن ہے۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۱۰)

**فائده:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی یہ امید اور توقع اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب ان طریقوں و تدبیروں کو اختیار کیا جائے جس کا ذکر ما قبل میں ہوا۔

جہاں تبلیغی کام مضبوط ہو گیا ہو وہاں ان کا مous کا اضافہ کر دیجئے

### غیر مسلموں میں بھی تبلیغ کا اہتمام کیجئے

**ارشاد فرمایا:** میوات کے اندر تین چیزیں اہم ہیں مدارس، خانقاہیں، غیر مسلم میں اسلام پیش کرنا۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۸۲)

میوات میں (جہاں تبلیغی کام مضبوط ہو گیا ہے) حسب ذیل نمبروں کا اضافہ اور ہو گیا ہے۔  
زکوٰۃ۔

علم فرائض۔ (میراث کی تقسیم)  
غیر مسلموں میں تبلیغ۔

مکتب۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۸۳)

**فائده:** حضرتؐ نے امت کے سامنے جو تبلیغ پیش فرمائی اور اپنے تبلیغی کارکنوں کو آپ جس رُخ پر ڈالنا چاہتے تھے حضرت کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دائرہ بہت وسیع تھا، آپ کی نگاہ بہت دور تک تھی، آپ کے خیالات بہت بلند تھے، چنانچہ مذکورہ بالا ارشاد میں آپ نے سارے تبلیغ والوں، خصوصاً جو عرصہ سے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مدارس قائم کرو، خانقاہیں آباد کرو، غیر مسلموں میں تبلیغ کا بھی نظام بناؤ، ان کو بھی اسلام کی دعوت دو۔

چھ نمبروں کے ساتھ اپنے دائِرہ عمل اور محنت کے میدان میں ان نمبرات کو بھی شامل کرو (۱) زکوٰۃ زندہ کرو (۲) میراث تقسیم کرو اور اس کاروانج دو (۳) مکتب کثرت سے قائم کرو (۴) غیر مسلموں میں بھی اسلام کی تبلیغ کرو۔

## یورپین قوم کو اسلام کی دعوت دینے کی فکر و ضرورت

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؐ ایک مکتب میں تحریر فرماتے ہیں:

کچھ زمانہ سے خاکسار کے فہم نارسا میں یہ مضمون آرہا ہے کہ کوئی قابل اور اہل شخص خاص معتدل طریقہ سے فطری اور او سط اہم لمل مذہب یعنی سچے اسلام کی طرف اس یورپین قوم کو زور و قوت اور پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ دعوت الی الحق کرے، (یعنی ان کو اسلام کی دعوت دے) سواس کے لیے آپ کے سوائے کسی پر نظر نہیں جلتی۔ اس وقت

یہ قوم برس اقتدار ہے، اور ایک مدت سے حکمرانی کر رہی ہے، سوال اللہ تعالیٰ کی عادت مع اخلاق پر نظر کرتے ہوئے یہ بات خیال میں آتی ہے (کہ اس قوم کو اسلام کی دعوت دی جائے)۔ (ارشادات و مکتوبات مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۱۱۱)

## یورپیں قوم کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے؟

اسلام کا صحیح تعارف اور غیروں کے شکوہ و شبہات دور کرنے اور اسلامی تعلیم کے محسن اور خوبیوں کو بیان کرنے کی ضرورت

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:  
اس کے واسطے پہلی بات اس طرز و طریق کو متعین کرنا ہے جو اس کے لیے اختیار کیا جائے، جس میں چند امور قابل لحاظ سمجھ میں آ رہے ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ مناظرے اور صریح کسی پر چوٹ کرنے سے محفوظ ہو۔  
(۲) دوسرے جو خرابیاں (اور بدگمانیاں) اپنے مذہب کی ان کے دلوں میں پیشی ہوئی ہیں ان کا شافی جواب لیے ہوئے ہوں۔

(۳) اور اپنے مذہب کی اصولی چیزوں مثلاً حسن تعلیم (یعنی اسلام کے محسن و فضائل) وغیرہ کی خوبیوں پر روشنی ڈال رہی ہو، باوجود اس کے مختصر ہونے کے بنا پر عام (یعنی عام لوگوں کے فائدہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے) اشاعت کے قابل مختصر چیز کی اشاعت آسان ہوتی ہے۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۱۱۲)

**فائدة:** حضرت مولانا کے فرمان کے مطابق غیر مسلموں میں تبلیغ اسلام کے لیے یہ تین چیزیں بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں، ایک تو یہ کہ بلا ضرورت مناظرانہ انداز نہ اختیار کیا جائے، طعن و تشنیع کے انداز سے گریز کیا جائے۔

دوسرے اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جس نوع کی بھی بدگمانیاں ان کے ذہنوں میں پڑی ہیں، ان سب کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، تاریخی پہلو سے بھی نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو اعتراضات ہوں ان کو بھی دور کیا جائے۔

تیسراً اسلام اور اسلامی تعلیمات کے محسن و خوبیاں خوب کثرت سے بیان کی جائیں، اس مقصد کے لیے مختصر رسائل اور مضمایں مختلف زبانوں میں شائع کئے جائیں، مختصر چیزوں کی اشاعت زیادہ آسان ہوتی ہے۔

یہ سارے کام علماء محققین اور دینی مدارس و تحقیقی مرکز کے بغیر انجام نہیں پاسکتے، اس لیے ایسے علماء کا وجود بڑی نعمت ہے جو اس کام کو کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔

## سیاسی کام کرنے والے بھی قابل قدر و قابل شکر ہیں

**فرمایا.....** میں سیاسی کام کرنے والوں کا بھی ممنون ہوں انہوں نے گورنمنٹ کو اپنی طرف متوجہ کئے رکھا جس کی وجہ سے میں اطمینان سے اتنے دنوں اپنا کام کر سکا۔ آخر میں رخصت ہوتے وقت ان صاحب نے دُعا کی درخواست کی تو اس پر فرمایا: ”حضرت! ہر مسلمان کے لیے اس کی غیبت میں دعا کرنا درحقیقت اپنے لیے دعا کرنا ہے، حدیث میں ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے خیر و فلاح کی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں ولک مثل ذلک، یعنی اے اللہ کے بندے یہی چیز اللہ تجھے بھی دے، لپس ہر مسلمان کے لیے کسی بہتری کی دعا درحقیقت فرشتوں سے اپنے لیے دعا کرانے کی ایک یقینی تدبیر ہے۔“

(ملفوظات ص: ۱۳۹، ملفوظ نمبر: ۱۵۹)

## دین کی اور امت کی حفاظت کے لیے سیاست و حکومت

### میں بھی حصہ لینا ہماری ترتیب میں شامل ہے

فرمایا: مولانا حسین احمد صاحب مدفیٰ کی برکت سے انگریزوں کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ کام بھی نہیں چھوڑنا ہے، میرے پاس تمام باتوں کے لیے طریقے ہیں۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۳۸)

**تشريع:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی نظر دین کے سارے شعبوں پر تھی اور آپ امت کی اور دین کی حفاظت کے لیے باطنی اسباب (یعنی دعا و توکل) کے ساتھ ظاہری اسباب و ظاہری تداہیر سے بھی غافل نہ تھے کیونکہ سنت نبوی یہی ہے۔  
سیاست و حکومت بھی دین کا اہم شعبہ ہے، اس کے متعلق کتاب و سنت میں ہدایات موجود ہیں، حکومت اسلامی ہو یا غیر اسلامی، ہم حاکم ہوں یا مکحوم، ہر حالت کے لیے اسلام میں ہدایات موجود ہیں جو علماء کرام سے معلوم ہو سکتی ہیں۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اس وقت اور اس حالت کا تذکرہ فرمایا جب کہ ہمارے اکابر علماء انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے اور ان سے مقابلہ کرنے میں مشغول تھے، حضرت نے فرمایا مولانا حسین احمد صاحب مدفیٰ کی ہمت و برکت سے انگریزوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، یہ کام بھی ہمارا ہے اس کام کو بھی نہیں چھوڑنا، جس کے جیسے حالات ہوں اور جس کے اندر جس کام کی صلاحیت ہو اس کے مطابق اس کام کو انجام دینا چاہئے، ہر فرد اور ہر جماعت سارے کام نہیں کر سکتی، اس کے لیے تقسیم کار ضروری ہے، ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہئے جو اس کام کو انجام دے، دین کے دوسرے کاموں کے ساتھ سیاست و حکومت سے متعلق جو ضروری کام ہیں، حدود شرع میں رہ کر علماء سے رہنمائی حاصل کر کے ان کو بھی کرنا چاہئے، یہی مطلب ہے حضرتؒ کا۔

## حکام و اہل سیاست کی اصلاح اور ان کو تبلیغ کرنے کا طریقہ

فرمایا..... جو لوگ گورنمنٹ کے وفادار اور حامی سمجھے جاتے ہیں درحقیقت وہ کسی کے بھی وفادار اور حامی نہیں ہیں، بلکہ صرف اپنی اغراض کے وفادار ہیں، البتہ آج چونکہ ان کی وہ دنی (حقیر اور معمولی) اغراض موجودہ گورنمنٹ سے پوری ہوتی ہیں اس لیے وہ ان کے حامی اور وفادار بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر کل ہی کو ان کی اغراض گورنمنٹ کے دشمنوں سے پوری ہونے لگیں تو وہ اسی درجہ میں ان کے بھی حامی اور وفادار ہو جائیں گے، ورنہ حقیقی طور پر تو ایسے غرض پرست لوگ اپنے باپ کے بھی وفادار نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بُرا بھلا کہا جائے یا بُس گورنمنٹ کی مخالفت پر ان کو آمادہ کیا جائے، ان کی اصلی بیماری ”غرض پرستی“ ہے اور جب تک یہ ان میں موجود ہے گی اگر گورنمنٹ کی حمایت انہوں نے چھوڑ بھی دی تو اپنی اغراض کے لیے وہ کسی اور ایسی طاقت کے ایسے ہی وفادار بنیں گے، اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان میں غرض پرستی کے بجائے خدا پرستی پیدا کی جائے اور اللہ اور اس کے دین کا نہیں سچا وفادار بنانے کی کوشش کی جائے، اس کے بغیر ان کی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب جس: ۲۱، ملفوظ نمبر: ۱۱)

## ہم حکومت اور اقتدار سے کیوں محروم کردیئے گئے؟

اس سوال پر کلام کرتے ہوئے کہ:

”مسلمانوں کو حکومت و اقتدار کیوں نہیں بخشنا جاتا؟“ فرمایا:

اللہ کے احکام اور اوامر و نواہی کی حفاظت و رعایت جب کہ تم اپنی ذات اور اپنی منزلی زندگی میں کر رہے ہے (جس پر تمہیں اختیار حاصل ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے) تو دنیا کا نظم و نسق کیسے تمہارے حوالہ کر دیا جائے۔

ایمان والوں کو حکومت ارضی دینے سے تو منشاء الہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضیات اور اس کے احکام کو دنیا میں نافذ کریں تو تم جب اپنے حدود و اختیار میں آج یہ نہیں کر رہے تو حکومت تمہارے پر درکار کے کل کے لیے تم سے اس کی کیا امید کی جاسکتی ہے؟۔ (ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۲۰، ملفوظ نمبر: ۱۰)

## دعوت و تبلیغ کے دو طریقے اور ہماری تحریک کا خلاصہ

فرمایا: ہماری تحریک کا خلاصہ علی سبیل الدعاۃ کام کرنا ہے، ہم علی سبیل السياسة کرنے کے اہل نہیں رہے۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۱۶)

**تشریح:** ”علی سبیل الدعاۃ“ کا مطلب ہے کہ نرمی و شفقت اور حکمت سے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اور ”علی سبیل السياسة“ کا مطلب ہے کہ حکومت و سیاست کی ماتحتی میں سختی اور قوت سے حق بات پہنچانا اور اصلاح کی کوشش کرنا، جونہ مانے اس پر سخت کارروائی کرنا، دعوت و تبلیغ کے دونوں ہی طریقے ہیں۔

دونوں طریقوں میں فرق یہ ہے کہ ”علی سبیل الدعاۃ“ کام کرنے میں خوشنام و عاجزی اور نرمی کا پہلو ہوگا کیونکہ ہمارے پاس زبردستی منوانے کی طاقت نہیں، جب کہ دوسرے طریقے یعنی ”علی سبیل السياسة“ میں قوت کے ذریعہ بات کو منوانا ہوگا، نہ مانے والے پر حکومت کی طرف سے سختی کی جائے گی، اس نوع کی دعوت اسلامی حکومت کی ماتحتی ہی میں ہو سکتی ہے، اور اسلامی حکومت ہی اس کی مکلف ہے کہ حکومت و قوت کے ذریعہ حق کو پہنچائے، معروفات کو پھیلائے اور تمام منکرات و معاصی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یہ حکومت کی ذمہ داری اور اسلامی حکومت کے مقاصد میں شامل ہے، آیت: **الَّذِينَ إِنْ مَكَنُهُمْ فِي الْأَرْضِ (الآیت پ: ۱۸)** میں اور حدیث ”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكِرًا“ الخ، کے پہلے درجہ میں یہی صورت مراد ہے۔ اسلامی حکومت میں شعبۂ احتساب اسی مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔

حضرت مولانا کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ حکومت و طاقت نہیں اس لیے ہم علی سبیل السیاست دعوت کا کام نہیں کر سکتے، ہماری تحریک کا کام علی سبیل الدعا یتے کرنا ہے، یعنی نرمی اور عاجزی کے ساتھ۔

## اسلام حکومت سے نہیں حسن اخلاق سے پھیلا ہے

فرمایا: میں مکہ گیا، علماء کو جمع کیا، امت کی تنزلی کے اسباب پوچھے سب نے ادھر ادھر کے اسباب بیان کئے کہ حکومت نہیں ہے، بھلا حکومت سے اسلام کا کیا تعلق؟ حکومت سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام سے حکومت پیدا ہوئی۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۲۷)

**تشريع:** یہ تو مخالفین اسلام کا اسلام پر غلط اعتراض اور الزام ہے کہ اسلام حکومت کے دباؤ اور تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہیں نہیں، اسلام تو صفائی معاملات اور حسن اخلاق سے پھیلا ہے، سیکڑوں واقعات اس پر شاہد ہیں، البتہ جب اسلام پھیل گیا، اہل اسلام کی قوت و کثرت ہو گئی تو اسلامی حکومت بھی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمادی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم صحیح معنی میں سچ پکے مومن بن جاؤ گے تو ہم تم کو تمکین اور خلافت فی الارض سے سرفراز کریں گے، یعنی تم کو غلبہ، حکومت و اقتدار بھی دیں گے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفُهُمْ فِي الْأَرْضِ، (آل آیت پ: ۱۸)۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب تمام مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے اعمال و اخلاق کو درست کرلو، اسلام کی ترقی خود بخود ہو جائے گی، حکومت تمہاری ہو یا غیروں کی تمہارے اعمال و اخلاق ایسے ہونے چاہئے جو خود غیروں کے دلوں میں اسلام و اہل اسلام کی محبت پیدا کر دیں۔

یہ صحیح ہے کہ شریعت کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو اسلامی حکومت کے بغیر نافذ

نہیں ہو سکتے، مثلاً چوری، زنا، قتل، شراب نوشی کی سزا، اور حدود و قصاص کا نفاذ، اسلامی حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس معنی کریہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ بہت سے اسلامی قوانین کی تنفیذ حکومت کے ذریعہ ہوئی، اور اسلام کا ایک حصہ حکومت سے پھیلا، اس پہلو سے ہم کو اسلامی قوانین کے نفاذ اور پورے طور پر اسلامی احکام کو جاری کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی بھی ضرورت ہے۔ البتہ اسلام کے دوسرے احکام اور توحید و رسالت کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت مسلمانوں کے حسن اخلاق اور صفائی معاملات ہی سے ہوتی ہے اور حکومت اسلامیہ کا قیام بھی اسی سے ہوگا۔

اس لیے مسلمانوں کو اپنے صفائی معاملات اور حسن اخلاق کی طرف خصوصی توجہ دینا چاہئے، اپنے اعمال و اخلاق اور عادات کو درست کرنا چاہئے، یہی دعوت و تبلیغ کا اہم مقصد ہے اس کی برکت سے انشاء اللہ اسلام کی اشاعت بھی ہوگی۔ اور حکومت و اقتدار حاصل نہ ہونے کی صورت میں ہم ان احکام پر عمل نہ کرنے کے مکلف ہی نہیں جو حکومت اسلامیہ کے بغیر انجام نہیں دیئے جاسکتے، مثلاً حدود و قصاص کا اجراء و نفاذ۔

# احکام و مسائل کی تبلیغ

## اور ان کی اہمیت

## باب ۲

### ایمان کے ساتھ علم کا رشتہ

### قبول ایمان کے بعد پہلا مرحلہ طلب علم

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ۔ (سورہ بقرہ پ: ۲)

ترجمہ: بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں کوشش کی یہی لوگ رحمت کے امیدوار ہیں۔

اول ایمان لانا، بعدہ طلب علم کے لیے ہجرت کرنا اور پھر کوشش کرنا یہاں تک کہ جان تک کا ارادہ کر لیوے، بس دین اس طرح سے آتا ہے اس کے علاوہ نہیں آتا، اور دین قرآن سے آتا ہے قرآن والوں کو اس کے ماتحت زندگی گذارنی ہے۔

(ارشادات و مکتبات مولانا محمد الیاس صاحب جس: ۵۰)

**تشریح:** ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو آدمی پر عائد ہوتا ہے وہ علم دین کی طلب کا ہے، ایمان کے بے شمار درجات ہیں، علم دین سیکھنے کا مطالبہ ایمان کے بلند درجات حاصل کرنے لیعنی ایمان کو پختہ اور کامل کر لینے کے بعد نہیں ہے، بلکہ ایمان کا ادنیٰ درجہ جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہوتا ہے، اس کے بعد ہی حلال و حرام کے مسائل اور نمازوں و قرآن سیکھنے کا آدمی مکلف بن جاتا ہے، حدیثوں میں واقعات آئے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نو مسلم صحابہ کو قرآن پاک اور نماز سکھلانی، بہت سے

وفود (مثلاً وفد عبد القیس کے لوگ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے حلال و حرام کے علم کو سیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ہی امور سکھلانے، جن برتوں کا استعمال کرنا حرام ہے، ان برتوں تک کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔

حضرت امام نوویؒ نے وفد عبد القیس کی آمد اور منقذ بن حیان کے مشرف باسلام ہونے کا قصہ تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، جس میں پوری وضاحت سے یہ بات آئی ہے کہ قبول اسلام کے بعد سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ اور اقرأ باسم رب الذی خلق سکھلائی اور وفد عبد القیس کی آمد پر ان کو حلال و حرام کی ضروری باتیں بتائیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبول ایمان کے بعد سب سے پہلا مرحلہ علم دین حاصل کرنے اور قرآن پاک سیکھنے کا ہے۔

حدیث پاک کے مختصر الفاظ اور امام نووی کی عبارت درج ذیل ہے:

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، أمنقذ بن حیان؟ کیف جمیع هیئتک و قومک ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل یسمیهم بأسماائهم فأسلم منقذ و تعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربک الخ.  
عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا يا رسول اللہ ..... مونا بأمر نعمل به وندعوا إلیه من ورائنا، قال آمرکم بأربع وأنها کم عن أربع الحديث۔

(مسلم شریف باب الامر بالایمان باللہ تعالیٰ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نووی ارجاء، مطبوع مصر)  
اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے سفر کرنا ہے جس کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے فرمایا ہے: ”ایمان لانا، بعدہ طلب علم کے لیے ہجرت کرنا“۔  
ہجرت سے مراد اللہ کے راستہ میں نکلا، اللہ کے واسطے گھر کو چھوڑنا، رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ (مشکوٰۃ شریف کتاب العلم) جو شخص علم کی طلب میں نکلا وہ جب تک کہ گھرو اپس نہ آجائے اللہ کے راستے میں ہے۔

اس سے علم دین سیکھنے اور اس کے لیے ہجرت کرنے، سفر کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی یہی بتلاتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ طلب علم اور طلب دین کے لیے سفر کرتے تھے، جس میں وہ قرآن پاک کے الفاظ و معانی سب ہی کچھ سیکھتے اور سمجھتے تھے، اور یہی مطلب ہے صحابہ کے اس فرمان کا کہ تعلمَنَا الإيمان ثُمَّ تعلَّمَنَا القرآن (ابن ماجہ: ۷) کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پہلے ہم ایمان میں داخل ہوئے پھر ہم نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا، یہ نہیں کہ ایمان میں داخل ہونے اور قبول اسلام کے بعد غافل ہو گئے، اور علم و عمل میں کوتا ہی کرنے لگے، نہیں ایمان لانے کے بعد ہی علم و عمل میں لگ گئے، یہ مطلب بھی نہیں کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام حاصل کر لیں اس کے بعد قرآن سیکھنے کا نمبر آیا ہو۔ اگر یہ مراد ہے تو ایمان کے اتنے درجات ہیں کہ مرتبے دم تک سارے مراتب حاصل نہیں ہو سکتے، تو مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص پھر قرآن پاک ہی نہ سیکھے، صحیح بات یہی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد آدمی علم دین اور قرآن سیکھنے کا مکلف بن جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وجہ نازل ہوئی اس میں بھی علم سیکھنے اور پڑھنے پڑھانے کا ذکر اور اسی کا امر ہے اقرأ باسم ربک الآية۔ یہی وہ علم ہے جس کے سیکھنے والے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے اور دریا کی مچھلیاں اور چیونٹیاں تک طلبہ علم دین کے لیے دعا میں کرتی ہیں، اس کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ علم دین اور قرآن کے بغیر دین نہیں آ سکتا ہے۔ دین آتا ہے اور ایمان بتتا ہے قرآن کے ذریعہ سے، اس لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے تبلیغی احباب کو علم دین سیکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے، البتہ اس کے بعد اب مجاہدہ کرنا اور دین پھیلانے کی کوشش کرنا ہے، یہ ہے کام کی ترتیب اور اس میں بھی ضرورت پیش آئے گی تقسم کارکی، کچھ لوگ یہ کام کریں کچھ لوگ دوسرا کام کریں۔

## احکام و مسائل کی اہمیت

**فرمایا:** عمل پلیٹ فارم ہے اور اوامر (یعنی حق تعالیٰ کے احکام شرعیہ، مسائل فقہیہ) رسیاں ہیں، ان اوامر کی رسیوں کے ذریعہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔  
 (ارشادات و مکتوبات ص: ۱۳)

**تشریح:** ایمان کے بعد سب سے اہم چیز اعمال ہیں، جس پر جنت میں داخلہ کو موقوف قرار دیا گیا ہے، قرآن پاک میں جہاں کہیں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ صرف ایمان پر نہیں بلکہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرنے پر ہے، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ كَانُوا لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا“ (سورہ کہف پ: ۱۶) (ترجمہ) بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کے لیے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، جنت الفردوس کا مقام۔

اور اعمال وہی معتبر ہیں جو حق تعالیٰ کے اوامر یعنی احکام شرعیہ کے موافق ہوں ورنہ عند اللہ وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، اس سے احکام شرعیہ و مسائل فقہیہ کی اہمیت معلوم ہوتی، اوامر یعنی احکام و مسائل یہی اللہ تعالیٰ کی رسیاں ہیں، حق تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، ان کے بغیر حق تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ دعوت و تبلیغ کے اصولوں میں تیسرے نمبر کا اصول علم و ذکر ہے، اس علم سے مراد صرف فضائل کا نہیں بلکہ احکام و مسائل کا بھی علم مراد ہے، خواہ سبقاً سبقاً علماء سے پڑھ کر حاصل کرے یا معتبر کتابوں کے مطالعہ کے ذریعہ یا معتبر علماء اور مفتیوں سے زبانی مسئلے پوچھ کر اور فتوے لے کر۔

## احکام و مسائل اور فتاویٰ کی اہمیت و ضرورت

**فرمایا:** اگر خدا کے قانون پر نہیں چلو گے تو یہ نفس جو تمارا دشمن ہے ایسے راستے بتلانے کا جس سے تباہی ہوگی۔

اپنے تجربہ سے سبق نہ لو بلکہ خدا اور رسول کے احکام سے معلومات حاصل کیا کرو۔  
عقل سے اللہ کو پہچاننے کا کام لو، احکامات میں عقل مت دوڑاؤ۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۲۶ و ۲۷)

**تشریح:** ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، پیدائش سے لے کر موت تک کے زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، اور ہمارے دینی و تبلیغی کاموں کی کوئی بھی نوعیت ہو، تمام کاموں میں ہم سب اللہ کے قانون اور اس کے احکام کے پابند ہیں، اور اسی کے مکلف بنائے گئے ہیں، کوئی کام کتنی ہی نیک نیتی اور لکنے ہی اچھے جذبہ و اخلاص سے کیا جائے پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب تک وہ کام شریعت کے مطابق اور مسئلہ کے موافق نہ ہوگا ہرگز ہرگز عند اللہ مقبول نہ ہوگا۔

اسی حقیقت کی طرف حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اپنے لوگوں کو متوجہ فرمایا ہے کہ احکام و مسائل کے باب میں نہ عقل سے کام لو نہ تجربہ سے، اور نہ ہی مشورہ سے بلکہ یہاں تو محض کتاب و سنت کی نقل پر مدار ہے، کتاب و سنت سے جو مسئلہ ثابت ہے اس کے آگے مشورہ، عقل و تجربہ سب چھوڑ دو، ہاں عقل سے اللہ کو پہچاننے کا کام لو، رہ گئے زندگی کے ہر شعبہ کے احکام و مسائل یہ علماء سے معلوم ہوں گے، الغرض حضرتؒ نے تمام تبلیغ احباب کو احکام و مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس سے غافل نہ ہوں ورنہ شیطان تباہی کے گڑھے میں گردے گا اور پتہ بھی نہ چلے گا۔

## اصل دین احکام و مسائل ہی ہیں

فرمایا: دین کیا چیز ہے؟ احکام کے مجموعہ کا نام (دین) ہے۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۳۸)

**فائده:** دین کے متعلق لوگوں کے مختلف نظریات اور مختلف خیالات ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق صرف عبادات سے ہے، نمازو زوہ کی پابندی کر لینا بس یہی

دین ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سال میں حج و عمرہ کر لینا، یا جہاد میں شریک ہونا، خون بہا دینا بس یہ دین ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خانقا ہوں میں بیٹھ کر مرائبے کرنا اور اذکار و اوراد کے معمولات پورے کر لینا بس یہ دین ہے، بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے راستہ میں وقت لگانا تین دن، چلمہ، چار ماہ لگانا اور روزانہ کے ڈھائی گھنٹے اور ملاقاتیں وغیرہ بس یہی دین ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معاملات کی صفائی اور حسن اخلاق یعنی ہر ایک سے خوش مزاجی سے ملاقات کرنا، ملن سار ہونا، دوسروں کی خدمت کرنا، نفع پہنچانا بس یہ دین ہے۔ الغرض دین کے تعلق سے لوگوں کے مختلف نظریات مختلف خیالات ہیں۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے مختصر سے جملہ میں دین کی حقیقت کو واضح فرمادیا کہ جتنی باتیں لوگوں نے بیان کی ہیں بے شک یہ سب بھی دین ہیں، لیکن گل دین نہیں، کامل دین کا یہ معیار نہیں، ہاں یوں کہتے کہ ان اعمال و اخلاق اور اوصاف کا بھی دین سے تعلق ہے لیکن یہ کل دین نہیں۔

اصل دین اور کامل دین توحیق تعالیٰ کے احکام و قوانین کے مجموعہ اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے، جو قرآن و حدیث میں کتاب و سنت میں بیان کئے گئے ہیں خواہ اس کا تعلق عقائد و عبادات سے ہو، یا اخلاق و معاملات اور معاشرت و سیاست سے ہو۔

مختصر الفاظ میں احکام الہیہ اور قوانین شرعیہ جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں زندگی کے جس شعبہ سے بھی متعلق ہوں ان قوانین شرعیہ میں احکام الہیہ پر اخلاص سے عمل کرنا یہی دین ہے، اور یہی کمال دین کا معیار ہے۔

اس کا نام آپ کچھ بھی دے لیجئے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا کہتے، انہمہ مجتہدین کی تقلید اور علماء کے بتائے ہوئے مسئللوں اور فتوؤں پر عمل کرنا کہتے، بزرگوں کی ہدایات و ارشادات پر عمل کہتے، حقیقت سب کی ایک ہے کہ احکام الہیہ و شرعیہ پر عمل کرنا، اب

زندگی کے ہر ہر شعبہ سے متعلق اور دن رات میں پیش آنے والے واقعات اور ہر ہر وقت کے متعلق معلوم کر لینا چاہئے کہ اس وقت کے لیے حکم خداوندی کیا ہے، عبادات کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کیا احکام ہیں، روزہ اور حج کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایتیں ہیں، بیوی بچوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برداشت کے متعلق آپ کے کیا ارشادات اور آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے، کاروبار اور تجارت کے متعلق شریعت نے کون کون سے احکام بیان کئے ہیں، کن کن باتوں سے بچنے کی ہدایت کی ہے، اخلاق ظاہرہ و باطنہ (غیبت، چغلی، کینہ، بعض، حسد وغیرہ) سے متعلق اسلام کی کیا ہدایات ہیں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے کیا حقوق بیان کئے گئے ہیں، سیاست و حکومت کے تعلق سے ہم حاکم ہوں یا محکوم، ان جیسے حالات میں شریعت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، دین کے خاطر قربانی دینے، اللہ کے راستہ میں نکلنے، جہاد کرنے کے شرعی حدود و قیود کیا ہیں؟ جن کے ہم مکلف بنائے گئے ہیں۔

الغرض زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق احکام شرعیہ کی پیروی کرنے کا نام ہی دین ہے، اسی کو حضرت مولانا نے فرمایا کہ احکام کے مجموعہ کا نام دین ہے۔

## کامل دین کی حقیقت

فرمایا: قانونِ خداوندی کا نام دین ہے۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۶۲)

**تشريع:** حضرتؐ نے دین کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ دین صرف چند مخصوص اعمال کے مجموعہ کا نام نہیں ہے کہ عبادات، ریاضات، تصوف، خانقاہ، دعوت و تبلیغ، بس یہ کل دین ہے، نہیں نہیں، بلکہ اصل دین تو قانونِ خداوندی پر عمل کرنے کا نام ہے، مثلاً عبادات و معاملات کے متعلق قانونِ خداوندی کیا ہے، آپ جس شعبہ سے متعلق ہیں، تجارت، ملازمت، کاشتکاری، یا کوئی پیشہ اس کے متعلق قانونِ خداوندی کیا ہے، اسی

طرح افراد و جماعت کے متعلق مثلاً والدین کے متعلق، بیوی کے متعلق، اولاد کے متعلق، رشتہ داری کے متعلق، پڑوسیوں کے متعلق، ائمہ و موزین اور علماء اسلام کے متعلق قانون خداوندی اور حکم الہی کیا ہے، زندگی کے ہر شعبہ اور تمام افراد سے متعلق شریعت کے حکم کو معلوم کرنا، اور اس کے مطابق عمل کرنا، شریعت کی روشنی میں سب کے حقوق ادا کرنا بس یہی دین ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی صرف چند چیزوں کو اختیار کر لے، مثلاً عبادت و ریاضت میں، تصوف و خانقاہ میں، دعوت و تبلیغ میں ایسے طور پر منہک ہو جائے کہ دوسرے اور اہلیہ اور حقوق واجبہ کی بھی رعایت نہ کر سکے، اور اس کو گل دین سمجھے۔

## احکام و مسائل کی تبلیغ کی فکر

### احکام دین سکھانے کے لیے جماعتوں کی روانگی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں بنانا کراحتاً حکامِ دین سکھانے کے لیے بھیجتے تھے، اب ضرورت ہے کہ اس طریقہ تبلیغ کا پھر احیاء ہو۔

(مولانا محمد الیاس صاحبؒ اور ان کی دینی دعوت ص: ۱۶۶)

**تفسیر:** تبلیغ جس کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے:

”بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ“ (سورہ مائدہ پ: ۶) کے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے ان سب کی تبلیغ فرماد تھے، اور ظاہر بات ہے کہ آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی، اصول بھی فروع بھی، عقائد بھی احکام بھی، سب ہی کی تبلیغ کا حکم ہے، تبلیغ فضائل کی بھی ہوتی ہے اور مسائل کی بھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے طریقہ تبلیغ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف موقعوں پر صحابہ کو احکام اور مسائل کی تعلیم و تبلیغ کے لیے بھیجا، ایک موقع پر ستر قراء کو تعلیم قرآن اور دین سکھانے کے لیے روانہ فرمایا، بیچارے سب

شہید کر دیئے گئے، بعض موقعوں پر خاص مسائل کی تبلیغ کے لیے صحابہ کو روانہ فرمایا، سودا اور شراب کی حرمت ہوئی، تو اس کی تبلیغ کے لیے صحابہ کو روانہ فرمایا، یوم عاشوراء کے روزہ کا حکم بیان کرنے کے لیے ایک صحابی کو مدینہ پاک کے اطراف میں بھیجا کہ جا کر سب کو اس مسئلہ کی تبلیغ کر دو، چنانچہ ان صحابی نے مدینہ کے اطراف میں جا کر اس مسئلہ کی تبلیغ فرمادی۔ عید کے موقع پر صدقہ فطر کا مسئلہ سمجھنا نے کے لیے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک منادی کو بھیجا جو لوگوں کو صدقۃ فطر کا مسئلہ بیان کر دے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم اور احکام کا معلم بننا کر بھیجا، روایتوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، احادیث مبارکہ کے چند جملے یہ ہیں:

- (۱) عن أنسٌ قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلاً لحاجة يقال لهم القراء. (بخاری شریف کتاب المغازی ص: ۵۸۶)
- إِنْ رَهْطًا مِّنَ الْعَضْلِ وَالْقَارَةِ قَدَمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَاصِمًا الْأَكْوَعَ أَبْعَثْنَاكُمْ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ فَبَعَثْنَا مَعَهُمْ بَعْضًا مِّنْ أَصْحَابِهِ عَاصِمًا وَغَيْرَهُ۔ (کرمانی شرح بخاری حاشیہ ۵۸۶/۲)
- (۲) عن سلمة بن الأكوع انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم الخ۔ (مسلم شریف ۳۵۹/۱، باب صوم يوم عاشوراء)
- (۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم الخ۔ (ترمذی، مشکوٰۃ ۱۶۰/۱)
- (۴) عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تقضى الخ۔ (ابوداؤ کتاب الأقفيۃ باب اجتہاد الرأی فی القضاۃ)
- عن الأسود بن يزيد قال أتنا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً لخ۔ (بخاری کتاب الفرائض، باب میراث البنات ۹۹۷/۲)

الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ احکام و مسائل کی تبلیغ کے لیے افراد بھی اور جماعتیں روانہ فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے فرمایا ہے، مولانا کے فرمان کے مطابق ضرورت ہے کہ پھر سے اس طریقہ کا احیاء ہو، یعنی احکام و مسائل کی تبلیغ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اسی طرح ہونے لگے۔

ظاہربات ہے کہ احکام و مسائل کی عمومی پیانہ پر تبلیغ سے انہیں احکام و مسائل کی تبلیغ مراد ہو گی جو روزمرہ کی ضروریات سے تعلق رکھتی ہوں، جن کے تعلیم و تعلم کو فرض عین سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی آرزو و تمنا اور پختہ ارادہ تھا، لیکن آپ کی زندگی میں یہ کام نہ ہو سکا، اور آپ اس کام کو نہ کر سکے، البتہ اس کام کی ضرورت و اہمیت کو آپ بیان فرمائے، بعض خطوط میں آپ نے اس بات کا ارادہ ظاہر فرمایا ہے کہ بندہ کے ذہن میں ایک خاکہ ہے اس کے مطابق علماء سے کتابیں لکھوانے کا ارادہ ہے، بہت سی باتیں بندے کے ذہن میں ہیں، جن کو قبل از وقت ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔

(مکاتیب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحبؒ ص ۲۰۳ مقتوب: ۲)

اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ کے ذہن میں کون سی باتیں تھیں اور آپ کتب فضائل کے علاوہ کس قسم کی کتابیں لکھوانا چاہتے تھے۔

مذکورہ بالا ارشاد میں آپ نے جوابات فرمائی کہ احکام و مسائل کی تبلیغ کے لیے بھی جماعتیں روانہ کی جائیں، عملی طور پر آپ اس کا کوئی خاکہ اور نمونہ پیش نہیں فرماسکے۔ اب اصحاب تبلیغ اور ارباب حل و عقد کے لیے قابل غور بات ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور مشورے سے طے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اس زمانہ میں اصحاب تبلیغ کس طرح احکام و مسائل کی تبلیغ فرمائیں۔

یہ تو یقینی بات ہے کہ احکام و مسائل کا وہ حصہ جو فرض کفایہ کے درجہ میں آتا ہے

جس کی تبلیغ تدریس کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے (مثلاً شرکت مضاربت، سود، رہن وغیرہ کے دقيق مسائل)۔ وہ تو اہل مدارس انجام دے رہے ہیں، لیکن فرض عین والے حصہ کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے، آیا نہیں جماعتوں میں احکام و مسائل کی تبلیغ کوشال کر لیا جائے، یا اس کے لیے مستقل جماعت اور وفود کی شکل میں یا کیمپوں کی شکل میں حسب موقع و حسب ضرورت احکام کی تبلیغ و تعلیم کا نظام بنایا جائے، یاد رسم قرآن، درس حدیث و فقہ کے عنوان سے کوئی نظام تجویز کیا جائے، تقریر کے ذریعہ یا تحریر کے ذریعہ، کچھ بھی ہو یہ کرنے کا ایک ضروری کام ہے جس کی طرف حضرت مولانا الیاس توجہ دلائے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، اب اصحاب تبلیغ سوچیں کہ اس کام کو آگے کیسے بڑھایا جائے۔

میوات میں جانے والی جماعتوں جو تبلیغی کام میں پختہ ہو گئے تھے ان کو آپ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ فرائض یعنی میراث کے سلسلہ کے وعدہ اور عیدوں پر مشتمل احکام خوب یاد کر کے جائیں اور ان کے سامنے بیان کریں۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ملفوظ: ۱۲۶، ص: ۱۰۵</sup>)

میراث ہی کی تخصیص نہیں، جیسا طبقہ اور جیسا مجمع ہوان کی ضرورت کے لحاظ سے ان کو احکام شرعیہ کی طرف متوجہ کرنا چاہئے، یا خاص وقت اور زمانہ کے لحاظ سے اس وقت کے احکام کی طرف توجہ دلانا چاہئے مثلاً محرم الحرام، یا قربانی کے ایام آئیں اس وقت محرم و قربانی کے ضروری احکام بیان کرنا چاہئے، شب برأت، رمضان اور عید الفطر کا موقع آئے تو اس وقت کے ضروری احکام بیان کر کے ان کی تبلیغ کرنا چاہئے اور یہ بیان علماء ہی کے ذریعہ ہوگا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ر</sup> کی اس فکر کے پیش نظر یہ خیال صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے مرکز اور ہمارے اجتماع سے صرف ایمان و یقین اور تشكیل ہی کی بات ہوگی، دوسرے موضوع کے ضروری مضمایں وقتیہ کا بھی بیان نہیں ہوگا، یہ فکر اور نقطہ نظر کتاب و

سنّت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نیز مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی ہدایت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے اس لیے ارباب حل و عقد کو اس پر خوب غور فکر کرنا چاہئے۔ (مرتب)

## علم کے تعلق سے تبلیغی کام کرنے والوں کو اہم نصیحت

**فرمایا:** ہر نکلنے والے کو اپنے مشغله کے خصوصی احکام سیکھنے کی ضرورت۔

عمومی علوم کے بعد خصوصی پر محنت کرو۔ (مکتوبات و ارشادات ص: ۱۷)

**تشريع:** مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا مطلب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ سے جڑنے اور نکلنے والوں پر لازم ہے کہ زندگی کے جس شعبہ سے ان کا تعلق ہے اور وہ جو مشغله اختیار کئے ہوئے ہیں، اس سلسلہ کے شرعی احکام ضرور سیکھیں، اس شعبہ سے متعلق جو معروفات اور جو منکرات ہیں ان کو معلوم کریں، معروفات کو اختیار کریں اور پھیلائیں، منکرات سے بچیں اور دوسروں کو منع کریں۔

عمومی علوم سے مراد نماز، روزہ وغیرہ کے ضروری احکام ہیں یہ تو سب کے لیے ہیں، ہی اس کے ساتھ ساتھ خصوصی علوم و احکام جن سے تمہارا تعلق ہے، وہ علم حاصل کرو، مثلاً اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کے سلسلہ کے جتنے احکام شرعیہ، معروفات و منکرات ہیں اور ڈاکٹروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ سب معلوم کرے، خواہ کتابوں سے دیکھ کر خواہ علماء سے پوچھ کر۔

اسی طرح تاجر حضرات کو تجارت کے سلسلہ کے، کاشتکار حضرات کو کاشتکاری کے، ملازمین حضرات کو ملازمت کے، سیاسی حضرات کو سیاست کے احکام شرعیہ اور اس سلسلہ کے معروفات و منکرات کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ (مرتب)

## دینی تعلیم کی اہمیت اور مدارس اسلامیہ کی ضرورت

**فرمایا:** مدرسہ کی تعلیم جڑ ہے، مگر وہ ابتداء ہے، انتہا یہی ہے، دونوں کی ضرورت ہے، یہ تحریک اس کا بدل نہیں ہے، تمام احادیث کی ضرورت ہے۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۲۲)

**تشریح:** حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس ارشاد میں تعلیم و تبلیغ دونوں کی ضرورت و اہمیت کو بیان فرمایا ہے، مدارس اسلامیہ کو تعلیم کی جڑ فرمایا ہے، جس طرح جڑ کے بغیر کسی پودے اور درخت کا وجود نہیں، بنیاد کے بغیر عمارت کا وجود نہیں، جڑ کمزور ہو، یا اکھڑ جائے تو درخت بھی خشک ہو کر گر جائے گا، یہی حال دین کے تمام شعبوں میں دینی تعلیم کا ہے، اگر دینی تعلیم نہ ہوگی تو دین کے تمام شعبے خشک ہو جائیں گے، اس لحاظ سے فرمایا کہ مدرسہ کی تعلیم جڑ ہے، یعنی تعلیم کے بغیر کسی شعبے کو زندہ نہیں رکھا جاسکتا۔

لیکن تعلیم اصل مقصود نہیں بلکہ وہ ابتداء ہے، مراد اس سے ابتدائی تعلیم ہے، جس سے قرآن و حدیث کے الفاظ و معانی پڑھنے اور سمجھنے کی لیاقت و صلاحیت پیدا ہو، اس کے بعد جملہ احکام شرعیہ کی حفاظت اور اس کی تبلیغ یعنی احکام خداوندی کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور اس کے مطابق عمل کا رواج ڈالنا یہ مقصود ہے، اور یہی تعلیم کا منتها بھی ہے جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے ”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ“ (اے نبی آپ پر جو احکام نازل کئے گئے ہیں ان سب کی تبلیغ فرمادیجئے)۔

بلاشبہ ان سب احکام کی تبلیغ کی صلاحیت بھی ابتدائی تعلیم اور مدارس کے ذریعہ ہی پیدا ہوگی، یہ تحریک اس کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جملہ احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے تمام احادیث اور کتب شرعیہ و فقہیہ سے استفادہ کی ضرورت ہے، یہ ضرورت اس تحریک سے پوری نہیں ہو سکتی، یہ تو مدارس ہی سے پوری ہو سکتی ہے۔ (مرتب)

## طلب علم کی دعوت بھی ضروری ہے علم ملے گا بزرگوں کی صحبت سے

ارشاد فرمایا: دینی امرؤں کی تلاش کا نام طلب علم ہے، گویا طلب علم فرض ہے، اس طریق کے ساتھ گھروں سے طلب علم کے لیے بے طلبیوں میں نکلو اور ان کو طلب کی دعوت دو، اور طلب والوں کو علم کی دعوت دو، اور علم ملے گا بزرگوں کی صحبت سے وہ حضرات علم کو مع عمل کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ خزانہ ہیں علم و عمل کا۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۲۸)

**فائده:** دینی امرؤں کا تلاش کرنا یعنی احکام خداوندی اور احکام شرعیہ کو معلوم کرنا یہی طلب علم ہے، جس کو شریعت نے فرض قرار دیا ہے، جس کے ذریعہ حلال و حرام، جائز ناجائز کا علم ہوتا ہے۔

حضرتؐ کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ جن کے اندر دین کی بالکل ہی طلب اور پیاس نہیں ہے ان میں جا کر پہلے طلب اور پیاس پیدا کرو، اور جن کے اندر طلب پیدا ہو چکی ہے اور وہ کام سے جڑ چکے ہیں ان کو علم دین اور احکام خداوندی سیکھنے کی دعوت دو، اور یہ علم دین محض کتابوں کے مطالعہ سے اور آج کل انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعہ سے کما حقة حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ صحیح طریقہ پر علم دین حاصل کرنے کے لیے علماء و مشائخ کی صحبت یعنی ان سے ربط رکھنے اور ان کے مشورے اور ان کی زرینگرانی علم حاصل کرنے سے صحیح علم حاصل ہو گا۔

یہ حضرات علماء کرام اور مشائخ دین علم و عمل دونوں کے جامع ہیں، وہ علم و عمل کا خزانہ ہیں، ان کی صحبت سے مستفید ہو کر اور ان کے مشورہ کے تحت دینی امرؤں یعنی احکام شرعیہ کا علم حاصل کریں، یہ ہدایت اور نصیحت ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی، ان لوگوں کے لیے جن کے اندر طلب پیدا ہو چکی ہے، اور وہ کام سے جڑے ہوئے ہیں۔

## نکلنے کا مقصد

### مسائل سیکھنے کے بعد ان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجئے

**ارشاد فرمایا:** ہر مسئلہ اپنے موقع پر (مثل) کلمۃ اللہ ہے، خواہ سونے کا ہو خواہ کھانے کا ہو، اپنے مقام پر (دعوت کی محنت) کرتے رہنا جو کچھ ہے وہ زمانہ تبلیغ میں اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔

اسی طرح کئی دفعہ پھر نے کے بعد مسائل کو سیکھنے کا درجہ درست ہوگا، ورنہ اس سے پیشتر جو مسائل آجائیں گے ان پر عمل نہ ہوگا، وہ باعث لعنت و دوزخ کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمادیں گے جب کہ تم کو معلوم تھا (تم نے عمل) کیوں نہیں کیا؟

(ارشادات و مکتوبات ص: ۱۷)

**تشریح:** حضرت<sup>ؐ</sup> کی مسئلہ سے مراد ہے ”دین کی بات اور نبی کا طریقہ“ خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرت اور عادات سے، ہر کام سنت اور نبی کے طریقہ کے مطابق ہونا چاہئے۔

حضرت<sup>ؐ</sup> کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ تبلیغ یعنی نکلنے کے زمانہ میں ان اعمال کی (یعنی اس بات کی کہ ہر کام ہمارا سنت کے مطابق ہونے لگے) خوب مشق کرنی اور عادت ڈالنی ہے، اپنے اعمال کو خوب مضبوط کرنا یعنی پختہ عادت ڈالنا ہے تاکہ واپس آ کر اپنے مقام پر رہتے ہوئے اسی کے مطابق کام کرے اور محنت کرے۔

حضرت والا نے نہایت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے ورنہ عام طور پر نکلنے کے زمانہ میں لوگ خوب محنت و مجاهدہ کرتے ہیں اور اپنے مقام پر آ کر سست اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں بلکہ بھول جاتے ہیں، حضرت فرماتا ہے ہیں کہ یہ نکلنا اسی واسطے ہے کہ نکلنے

کے زمانہ میں جو کچھ تم نے سیکھا ہے اور جن اعمال کی عادت ڈالی ہے اپنے مقام پر رہ کر اسی کے مطابق زندگی گزارو۔

حضرتؐ نے دوسری اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نکلنے کے زمانہ میں جو طلب اور جو ذوق و شوق پیدا ہو جائے گا اس ذوق و شوق سے کام لینے کی ضرورت ہے وہ اس طرح کہ اب دینی مسائل اور احکام شرعیہ کو سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سیکھنے میں محنت و مشقت بھی ہوتی ہے پھر عمل کا نمبر آئے گا، جماعت میں نکنا بذات خود مقصود نہیں بلکہ حضرتؐ کے فرمان کے مطابق نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر فکر اور ذوق و شوق پیدا ہو جائے تاکہ اس کے بعد احکام و مسائل سیکھنے کی کوشش کرو اور اس کے مطابق عمل بھی کرو۔

حضرتؐ کے فرمان کے مطابق اس ذوق و شوق کے پیدا ہونے سے پہلے اولاً تو احکام و مسائل سیکھنے کی طرف طبیعت راغب نہ ہوگی اور اگر سیکھ بھی لیا تو عمل کی طرف رجحان نہیں ہوگا، یہ بھی گناہ کا باعث ہوگا کہ جانتے ہوئے عمل کیوں نہیں کیا، اس کے لیے حضرتؐ نے ایسی تدبیر بتائی کہ نکلنے کے زمانہ میں ایسی طلب و شوق پیدا ہو جائے کہ آدمی کی طبیعت خود ان احکام شرعیہ کو سیکھنے اور عمل کرنے کی طرف راغب ہو جائے، گویا یہ نکنا ذریعہ اور واسطہ ہے مقصد کے حاصل ہونے کا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائیوں نے صرف نکلنے ہی کو حاصل مقصود سمجھ لیا اور اس کے بعد زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق احکام شرعیہ کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اس سے غافل ہو گئے۔

**علوم شرعیہ کی تحصیل و تکمیل مدارس و خانقاہوں کے ذریعہ ہوگی**

**دعوت و تبلیغ مدارس و خانقاہ کے لیے بمنزہ وسیلہ اور بنیاد کے ہے**

**ارشاد فرمایا:** تحصیل علوم (یعنی علوم شرعیہ دینیہ کے) مرجب طرق (یعنی) مدارس اور خانقاہیں تکمیل علوم کے لیے ہیں اور (ہماری) تبلیغ ان کی ابتدائی تعلیم و تعلم اور

بنیادی پرائزمری ہے، بنیاد کی صحت بغیر اگلے علوم صحیح نہیں ہو سکتے، اور طریق استعمال سیکھے بغیر علوم فتح اور اتفاق اپنے پڑ سکتے بلکہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۱۱)

**تشريع:** حضرت<sup>ؐ</sup> کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبوعث فرمایا خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقاصد یہ ہیں، جن کو قرآن نے بیان کیا ہے ”يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ“، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور لوگوں کے ظاہر و باطن کی اصلاح یعنی قلوب کا ترقیہ، چنانچہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کئے، صفة (چبورتہ) اور دربار بنوی بیک وقت مدرسہ بھی تھا اور خانقاہ بھی جہاں تعلیم کتاب و حکمت اور ترقیہ کے سارے کام ہوتے تھے، اصحاب صفة ان سارے علوم کے حامل تھے، وہی طلبہ علم اور وہی اپنے قلوب کا ترقیہ کرانے والے بھی تھے، مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ حسب ضرورت و گنجائش آآ کر مستفید ہوتے رہتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاموں کو جو کرنے والے ہیں وہی نبی کے وارث اور جانشیں ہیں یعنی علماء اور مشائخ، خود ہی آپ نے فرمادیا، ”إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ النَّبِيِّاَءِ“، (ابوداؤد، جمع الفوائد ۱۰۹، حدیث: ۱۶۵) چنانچہ علماء و مشائخ تعلیم کتاب و حکمة اور ترقیہ نفوس کے کام کو انجام دیتے ہیں، اور یہ تمام کام مدارس اور خانقاہوں میں انجام پاتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> فرمار ہے ہیں کہ علوم شرعیہ کی تحریک و تکمیل تو انہیں مدارس اور خانقاہوں کے ذریعہ ہوگی، اور ہماری یہ تبلیغ ان مدارس اور خانقاہوں کے لیے ایسی ہے جیسے پرائزمری کی ابتدائی تعلیم۔ جس طرح ابتدائی اور پرائزمری تعلیم کے بغیر اگلے علوم حاصل نہیں کئے جاسکتے، اور پرائزمری اور مکتب کی تعلیم بمنزلہ وسیلہ اور ذریعہ کے

ہے تاکہ اس کے ذریعہ اگلی منزل طے کرنا آسان ہو، اسی طرح ہماری یہ تبلیغ بھی دیگر علوم عالیہ، علوم شرعیہ کی تکمیل و تحسیل اور مدارس و خانقاہوں کے لیے بخوبی و سیلہ اور ذریعہ کے ہے۔ اس مرحلہ میں قدم رکھنے اور قدم مضبوط ہو جانے کے ساتھ ہی مدارس اور خانقاہوں کی آبادی کی بھی فکر کرنا چاہئے اور اپنی حیثیت و وسعت کے مطابق مدارس و خانقاہوں سے ربط رکھتے ہوئے ان علماء و مشائخ اور اہل مدارس و خانقاہ سے یعنی علماء و مشائخ سے فائدہ اٹھانا چاہئے، تب ہی جا کر ان علوم سے پورا نفع ہو گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، بلاشبہ حضرتؐ کے اس فرمان پر عمل کیا جائے تو مدارس اور خانقاہیں کثرت سے آباد ہو جائیں۔

## علوم سیکھنے کی ترتیب اور نصاب کا خاکہ

فرمایا: بذریعہ امہات العقاد کے، عقاد کو مضبوط کرنا، پھر عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق کو درست کرنا۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۲۶)

ترتیب علوم سیکھنے کی (یہ ہے):

فرض چیزوں کو معلوم کرنا، پھر ان کے اندر وون فرائض و واجبات کو سیکھنا، اور پھر اور فرضوں میں بھی اہم فرض بعدہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا بعدہ باقی تمام دین سیکھنا۔

سنّت، نفل اور مستحب ہر عمل میں خلوص و خشوع کا سیکھنا، اللہ کو حاضر و ناظر رکھنے کی مشق کرنا، بذریعہ اعمال اس کی ذات و صفات کو پہچانا۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۲۶)

**فائده:** حضرت مولانا الیاس صاحبؐ نے تمام تبلیغی احباب اور تبلیغ سے منسلک حضرات کے لیے علم دین سیکھنے کا پورے نصاب کا خاکہ بیان فرمادیا ہے، اسی کے مطابق نصاب مرتب کر کے اس کو عمومی پیانہ پر نافذ کرنا چاہئے، نصاب ایسا ہونا چاہئے (جیسا کہ حضرت نے فرمایا ہے) جس میں اسلام کے بنیادی عقائد اور عبادات سے متعلق ضروری مسائل بھی ہوں، اسی طرح اس نصاب میں معاملات، تجارت، بیع و شراء کے

مسائل و احکام، حقوق زوجین، حقوق اولاد، حقوق والدین، حقوق پڑوئی وغیرہ کے شرعی احکام اور ہدایات بھی بیان کئے گئے ہوں، اسی طرح اس نصاب میں اصلاح باطن سے متعلق ضروری امور مثلاً اپنے اخلاق کو درست کرنا، تکبر نہ ہونا اللہ کی محبت کا غالب ہونا وغیرہ وغیرہ ایسے ضروری امور کو بھی اس نصاب میں بیان کیا گیا ہو، باطنی امراض اور رذائل کیا ہیں ان کا علاج کیسے ہوگا، نماز میں خشوع خصوص کیسے پیدا ہوگا، ایسی ضروری ہدایات پر بھی وہ نصاب مشتمل ہونا چاہئے۔

الغرض حضرتؐ کے فرمان کے مطابق اصحاب تبلیغ کے لیے ایک ایسا جامع نصاب ہونا چاہئے جو دین کی ضروریات اور ظاہری و باطنی اصلاح کے لیے کافی ہو، ہر زمانہ کے اہل تبلیغ اور ارباب حل و عقد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے نصاب کی فکر کریں اور اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں اور اس کی عملی شکل بھی بتائیں۔

یہ تو علم دین سکھنے اور اصلاح ظاہر کے لیے نصاب کی تشکیل ہوئی، باقی اصلاح باطن کے لیے مثلاً یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے، اس کی ذات و صفات پیش نظر رہیں، عبادات میں خشوع کی شان پائی جائے اس کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے اس کے لیے مشائخ اور صوفیاء سے ربط رکھ کر ان کے واسطے سے باطن کی اصلاح کرنا ضروری ہوگا۔

حضرتؐ نے تمام اصحاب تبلیغ کی کامیابی کے لیے یہ جامع نسخہ تجویز فرمایا ہے اصحاب تبلیغ کو اس پر غور کرنا چاہئے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے اگر اب تک عمل نہیں ہو سکا تو اب اس کی فکر کرنا چاہئے، صرف خروج مقصود نہیں ہے خروج سے تو طلب اور فکر مقصود ہے، اس کے بعد ان عمال میں لگنا اور ان کو زندہ کرنا مطلوب ہے۔

## اصحاب تبلیغ کے لیے مختصر نظام العمل اور نظام الوقت

کچھ وقت احکام شرعیہ، مسائل فقہیہ کے سیکھنے میں خرچ کیجئے

**فرمایا:** راتوں کوڈ کر سے اور دن میں تبلیغ سے اور باقی وقت کو ضروریات سے فارغ رہتے ہوئے علوم کے سیکھنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔

**علوم کی تفصیل:** کچھ وقت ان علوم میں صرف کرے جس سے جذبات پیدا ہوں (یعنی عمل کا شوق پیدا ہو جسے فضائل کا علم کہتے ہیں) اور باقی کو مسائل وغیرہ کے سیکھنے میں خرچ کرے (جس سے اعمال صحیح اور سنت کے مطابق ادا ہوں گے، جسے مسائل کا علم کہتے ہیں)۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۹۷)

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اپنے تمام تبلیغی کام کرنے والوں کو خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ انفرادی و اجتماعی اعمال مثلاً اذکار مسنونہ اور تبلیغی مشاغل میں لگنے کے ساتھ علم کی طرف سے غافل نہ ہوں، کچھ وقت علوم شرعیہ کے سیکھنے میں ضرور صرف کریں، اور ۲۴ گھنٹہ میں اس کے لیے ضرور وقت متعین کریں، جس میں دونوں طرح کے علوم سیکھنے کی کوشش کریں یعنی فضائل کا علم جس سے عمل کا جذبہ و شوق اور اخلاص پیدا ہوگا، اور احکام و مسائل کا علم جس سے ہمارے تمام اعمال شریعت کے مطابق ہوں گے۔ ورنہ ساری محنت بیکار ہو جائے گی اس لیے تمام احباب تبلیغ کی ذمہ داری ہے کہ مسائل سیکھنے سکھانے کا نظام بنائیں خواہ کتاب پڑھ کر یا کسی عالم و مفتی کا انتخاب کر کے مثلاً ایک گھنٹہ اس کی خدمت حاصل کریں اور سارے تبلیغی احباب اس میں شرکت کو لازم سمجھیں۔

جاہل کو عالم کے پاس جانا فرض ہے احکام و مسائل سیکھنا بھی فرض ہے

**فرمایا:** جہالت کے مقابلہ میں علم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے اللہ کے امروں کو (یعنی احکام شرعیہ کو) سیکھنا فرض ہے، (اور اس مقصد کو حاصل کرنے

کے لیے) جاہل کو عالم کے پاس جانا فرض ہے۔ اور اسی طرح جس قدر عالم جاہل سے بڑا ہے اسی قدر عالم کو جاہل سے ملنا، اور علم سکھانا فرض ہے، تو پھر جہالت علم سے بدل جائے گی۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۶۷)

**فائده:** علم سے مراد علم شرعی اور علم دین ہے، اللہ کے امر و ممانع سے مراد احکام شرعیہ اور مسائل فقہیہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ زندگی گذارنے کے لیے جس جس موقع پر حکم شرعی کو معلوم کرنے کی ضرورت ہواں کا سیکھنا فرض ہے، خواہ معتبر کتابوں کو دیکھ کر یا علماء سے پوچھ کر، اس غرض کے لیے ضرورت کے وقت عالم کے پاس جانا بھی فرض ہوگا اور جس طرح جاہل کو عالم کے پاس طالب بن کر جانا فرض ہے اسی طرح عالم دین پر بھی فرض ہے کہ اس طالب کی قدر کرے، اس سے ملاقات کرے اور اس کو علم دین سکھلانے، اس طرح عوام و علماء کا باہمی ربط ہونے سے جہالت ختم ہو جائے گی، علم کی روشنی آئے گی، عوام اور علماء دونوں کو مل کر مشورے سے اجتماعی طور پر اس کا نظام بنانا چاہئے، اجتماعی طور پر نظام چلانے کے لیے جگہ کا انتخاب، تنخواہ کا انتظام عوام پر ضروری ہوگا، اور وقت فارغ کر کے لوگوں کو دین سکھلانا یہ علماء کی ذمہ داری ہوگی۔

علم دین کے دو درجہ ہیں فرض کفایہ، فرض عین، فرض کفایہ، تو یہ جیسے پورا عالم، مفتی حافظ، قاری بننا، اتنی بڑی تعداد میں ہر وقت موجود ہونا چاہئے جس سے امت کی ضرورت میں پوری ہو سکیں، اور قرآن و حدیث اور دوسرے علوم شرعیہ پورے طور پر محفوظ رہ سکیں، دوسرے فرض عین، اس کا سیکھنا بقدر ضرورت ہر ایک پر فرض ہے، حضرتؐ نے اپنے ارشاد میں اس دوسری قسم یعنی فرض عین کے متعلق ہی فرمایا ہے۔

### تبلیغ و تعلیم کا ایک فرق

**ارشاد فرمایا:** تبلیغ ہے بے طلبوں میں، اور تعلیم ہے طالبوں کے لیے، تبلیغ

ہے فرض، ہر ایک مسلمان پر فرض عین ہے۔

درستگاہیں بمنزلہ سمندر کے ہوں اور یہ پھر نے والے (تبلیغ والے) بطور نالیوں کے۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۸۲ و ۸۳)

**تشريع:** حضرت<sup>ؐ</sup> نے تبلیغ و تعلیم کا فرق اور دونوں کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، تبلیغ ان لوگوں کو کی جاتی ہے جن کے اندر طلب نہیں، پیاس نہیں، ان کے پاس جا کر ان میں طلب پیدا کی جاتی ہے، رغبت دلائی جاتی ہے، جب کہ تعلیم طالبوں کے لیے ہوتی ہے، جن کے اندر طلب ہے پیاس ہے، فکر ہے۔

تبلیغ میں صرف بات کا پہنچا دینا، پیاس اور طلب پیدا کرنا ہوتا ہے جب کہ تعلیم میں بتانا، سمجھانا، سکھلانا، نگرانی کرنا، یاد کرانا، نہ یاد ہونے پر یا غلط یاد ہونے پر تنبیہ کرنا، یہ سب تعلیم کے دائرہ میں آتا ہے، یعنی تبلیغ، تعلیم کے لیے بمنزلہ ذریعہ اور وسیلہ کے ہے، اس پہلو سے افادیت کے لحاظ سے تعلیم کی اہمیت تبلیغ سے بھی زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کفار کو تبلیغ فرمائے تھے کہ اتنے میں عبد اللہ بن ام مکتوم ناپینا صحابی دین کی کسی بات کو سیکھنے کے لیے طالب بن کر حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کفار کو تبلیغ کرنے میں مصروف تھے اس لیے آپ نے اس وقت ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی کہ یہ تو اپنے ہیں ان کو بعد میں تعلیم کر دیں گے، میں اس وقت کفار کو تبلیغ کر رہا ہوں۔ یہ آپ کا اجتہاد تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی اور یہ آیتیں نازل ہوئیں ”عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى“، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بے طالبوں میں تبلیغ فرمائے تھے، اور یہ صحابی دین سیکھنے کی غرض سے طالب بن کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تبلیغ کے مقابلہ میں تعلیم کو ترجیح دی کہ یہ طالب ہیں، یہاں نفع یقینی ہے، اور جن کو آپ تبلیغ فرمائے ہیں ان کو نفع پہنچنا غیر یقینی ہے، اس لیے غیر طالب جہاں نفع غیر یقینی ہو، ان کو طالبین و معلمین کے مقابلہ میں ترجیح نہیں ہوگی، یہ اللہ کا فرمان

ہے۔ اس پوری تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعلیم تبلیغ سے زیادہ اہم اور نافع اور قابل ترجیح ہے۔ واللہ اعلم۔

## مدرسوں، دینی درسگاہوں اور عام تبلیغ کا ایک واضح فرق

اس کو ایک مثال سے سمجھئے! حدیث پاک میں آیا ہے جو موزن کی اذان کے کلمات سنن تو اس کو بھی وہی کلمات اپنی زبان سے کہنے چاہئیں، اذان کے وقت کی ایک دعا، بھی حدیث پاک میں آتی ہے، اذان کے بعد کے لیے حکم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود ھیجو، اور میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو، وسیلہ کی دعا سے مراد اذان کے بعد کی مشہور دعا ہے، ”اللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةِ التَّامَّةِ“ اخ (مسلم شریف، ۱۶۷ اور ۱۶۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا ”حَلَّتْ لَهُ شَفَا عَنِي“ وہ میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم عمل کی طرف امت کو توجہ دلائی ہے۔

اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان حدیثوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس اہم عمل کی لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں، آپ نے محدود لوگوں کے سامنے ان حدیثوں کو اور اس اہم عمل کی فضیلت بیان فرمادی تو تبلیغ ہو گئی، آپ کو تبلیغ کا ثواب مل گیا، اس سے قطع نظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کوئی توجہ سے سنبھالنے یا نہ سنے، اس دعا کو یاد کرے یا نہ کرے، اس کے مطابق عمل کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کو حدیث پاک کی اور سنت کی اور دعا کی تبلیغ کا ثواب مل گیا، اسی مضمون کو آپ نے چند لوگوں کے سامنے کتاب میں پڑھ کر سنادیا، یا جمعہ کے دن جلسے میں یا عمومی جلسے میں لوگوں کو آپ نے ترغیب دی اور حدیث پاک کے پورے مضمون کو بیان کر کے اذان کے بعد کی دعا پڑھنے پر لوگوں کو آمادہ کیا۔

بہر صورت آپ کو تبلیغ کا ثواب مل گیا خواہ کوئی دعا یاد کرے یا نہ یاد کرے اور

پڑھے یا نہ پڑھے۔ یہ حال تو ہے تبلیغ کا کہ ایسا کرنے سے آپ کو الٰ فَلِیلَغُ الشَّاهِدُ الغائب اور بِلَغُوا عَنِّی ولو آیہ (بخاری شریف ارجمند ۲۹۱) کا ثواب مل جائے گا، اور آپ اس فضیلت کے مستحق بن جائیں گے۔

اب دیکھئے تعلیم کو کہ اس کا حال تبلیغ سے مختلف ہے، تبلیغ میں صرف بات کا پہنچانا ہوتا ہے جب کہ تعلیم میں بات کا پہنچانا ہی نہیں بلکہ سکھانا، سمجھانا، بتانا، رٹانا، یاد کرنا، نگرانی کرنا، سننا، نہ یاد ہونے پر تنبیہ کرنا، غلط یاد ہونے پر اس کی تصحیح کرنا پھر اس کے بعد عمل کی نگرانی بھی کرنا اور باز پرس کرنا، تعلیم و تربیت کے دائرة میں اتنی باتیں آ جاتی ہیں۔ مثلاً مدارس میں بعد عنشاء دعاؤں کا مذاکرہ ہوتا ہے یا مکتب میں بچوں کو دعاؤں کے سکھانے، یاد کرانے کا اہتمام ہوتا ہے، سارے بچوں کو لائن سے کھڑا کر دیا گیا، ایک بچہ سب کو پڑھاتا ہے سارے بچے رٹتے یاد کرتے ہیں، دوسرے تیرے تیرے بچے سے پڑھوایا جاتا ہے، دوسرے تیرے دن دعا سنی جاتی ہے، جس کو یاد نہ ہواں کو تنبیہ کی جاتی ہے، غلط یاد ہو تو تصحیح کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنی نگرانی میں عمل کرانے کی بھی کوشش ہوتی ہے یہ صرف تبلیغ نہیں ہے، بلکہ اس میں تبلیغ کے ساتھ تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں صحابہ کو انفرادی طور پر صرف تبلیغ پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ تعلیم فرمائی ہے، صحابی کے غلط پڑھنے پر آپ نے ٹوکا ہے تصحیح بھی کرائی ہے، اور فرمایا ہے انما بعثت معلمًا اللہ نے مجھ کو معلم بنانا کر بھیجا ہے، دین کے دوسرے حلقوں کے مقابلہ میں آپ نے علمی حلقة کو ترجیح دی ہے، اور ان کو زیادہ افضل قرار دیا۔

(دارمی، مشکوٰۃ شریف ص: ۳۶، کتاب اعلم)

یہ حال تو صرف بطور مثال کے دعا کا تھا ورنہ شریعت کے دیگر اہم مسائل اور احکام شرعیہ کو آپ نے اچھی طرح سمجھایا ہے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیئے ہیں، شکوٰک و شبہات کا ازالہ فرمایا ہے، یہ سب تعلیم و تربیت کے دائرة میں آتا ہے اور آپ نے

فرمایا کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے ہوں جس طرح باپ بیٹے کی پوری نگرانی کے ساتھ تعلیم و تربیت کرتا ہے اسی طرح میں بھی کرتا ہوں۔ (مشکوٰۃ)

اس پوری تفصیل سے خود ہی سمجھ لینا چاہئے کہ مکاتب و مدارس جہاں بچوں کی صرف تبلیغ نہیں بلکہ تعلیم ہے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔

اس پوری تفصیل سے تبلیغ و تعلیم کا فرق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تعلیم، تبلیغ سے زیادہ اہم اور نافع ہے اور نبیوں والا کام ہے۔ (مرتب)

## تبلیغ کہاں واجب ہے اور کہاں مستحسن؟

آخر میں حضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ: ”تبلیغ کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔“

اس کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے فقہاء نے موقع محل اور حالات کے اعتبار سے تبلیغ کی مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ تبلیغ فرض و واجب بھی ہوتی ہے، مباح و جائز اور افضل بھی، مکروہ و منوع بھی، مخاطب کے حالات کے اعتبار سے حکم بھی مختلف ہوتا ہے، اس سلسلہ میں فقہاء و مفسرین نے جو تفصیل ذکر فرمائی ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

(۱) جن لوگوں کی اصلاح و تربیت کے ہم مکلف بنائے گئے ہیں اور جن کی اصلاح کرنا ہم پر واجب ہے ان لوگوں کو دعوت دینا یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، اچھی اور بھلی باتوں کا حکم دینا اور گناہ کی باتوں سے روکنا واجب ہے۔ مثلاً باپ، شوہر، استاذ، نگراں اور مہتمم وغیرہ پر واجب ہے کہ بیٹے، بیوی، شاگرد، مرید، اور ماتحت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، پھر واجب اعمال میں تبلیغ کرنا واجب ہوگا اور مستحب اعمال میں مستحب۔ اور حرام میں ابتلاء کی صورت میں نہی نہ کرنا حرام ہوگا، اور مکروہ اعمال میں ابتلاء کی صورت میں منع نہ کرنا مکروہ ہوگا۔

(۲) عام حالات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس وقت واجب ہے جب

کہ ظن غالب یہ ہو کہ مخاطب جس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جا رہا ہے اس کو سن کر عمل کرے گا، یعنی بات کو تسلیم کرے گا اور عمل کی بھی توقع ہے۔ تو ایسی صورت میں تبلیغ کرنا واجب ہے، ترک جائز نہیں۔

(۳) اور اگر ظن غالب یہ ہو کہ مخاطب بجائے تسلیم کرنے کے داعی کو برا بھلا کہنے لگے گا، اس کو تم اور بدنام کرے گا یا ایسی ایذاء کے درپے ہو گا جس کا اس سے ختم نہ ہو سکے گا یا اس کی وجہ سے اختلاف و عداوت اور جھگڑے کا اندر یہ ہو تو ایسی صورت میں دعوت نہ دینا یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنا افضل ہو گا۔

(۴) اور اگر اس کا اطمینان ہو کہ دعوت (امر بالمعروف یا نہی عن المنکر) کرنے کے بعد اس پر جو حالات آئیں گے اس کو برا بھلا کہیں گے یا ماریں پیشیں گے ان حالات پر وہ صبر کر لے گا، کسی سے اس کا شکوہ نہ کرے گا، تو ایسی صورت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا درست ہے، اور ایسا داعی مجہد کہلانے جانے کا مستحق ہے، ایسی صورت میں اگر یہ مقتول بھی ہو جائے تو عند اللہ شہید شمار ہو گا۔

(۵) اور اگر ایسے حالات ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے نتیجے میں نہ تو کسی قسم کے ضرر کا خطرہ ہے اور نہ ہی مخاطب کے قبول کرنے کی توقع، تو ایسی صورت میں دعوت دینا مباح اور جائز ہے۔ یعنی داعی کو اختیار ہے خواہ دعوت دے یا نہ دے، دینے میں ثواب ملے گا۔

(۶) عوام الناس کے لیے جائز نہیں کہ مشہور عالم، مفتی، قاضی کو دعوت دے، یعنی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرے۔  
یہ ساری تفصیل ہمارے فقهاء نے ذکر فرمائی ہے۔ فتاوی عالمگیری کی عبارت درج ذیل ہے:

إن الأمر بالمعروف على وجوهٍ، إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون ذلك منه، ويمنعون عن المنكر فالأمر واجب عليه

ولا یسعہ تر کہ، ولو علم بـاـکـبـر رـأـیـهـ آـنـهـ لوـ اـمـرـہـمـ بـذـلـکـ قـذـفـوـہـ وـشـتـمـوـہـ فـتـرـ کـہـ أـفـضـلـ،ـ وـكـذـاـ لوـ عـلـمـ آـنـہـمـ يـضـرـبـوـنـهـ،ـ وـلاـ يـصـبـرـ عـلـیـ ذـلـکـ وـيـقـعـ بـیـنـہـمـ عـدـاـوـةـ وـیـہـیـجـ منـهـ القـتـالـ فـتـرـ کـہـ أـفـضـلـ،ـ وـلوـ عـلـمـ آـنـہـمـ لوـ ضـرـبـوـہـ صـبـرـ عـلـیـ ذـلـکـ وـلاـ يـشـکـوـ إـلـیـ أـحـدـ فـلـاـ بـأـسـ بـأـنـ بـنـہـیـ عنـ ذـلـکـ وـھـوـ مـجـاهـدـ،ـ وـلوـ عـلـمـ آـنـہـمـ لـاـ يـقـبـلـوـنـ مـنـهـ وـلـاـ يـخـافـ مـنـہـمـ ضـرـبـاـ وـشـتـمـاـ فـھـوـ بـالـخـیـارـ وـالـأـمـرـ أـفـضـلـ کـذـاـ فـیـ الـمـحـیـطـ،ـ إـذـاـ اـسـتـقـبـلـهـ الـأـمـرـ بـالـمـعـرـوـفـ وـخـشـیـ أـنـ لوـ أـقـدـمـ عـلـیـهـ قـتـلـ،ـ فـإـنـ أـقـدـمـ عـلـیـهـ وـقـتـلـ يـکـونـ شـہـیدـاـ۔ـ

(فتاویٰ عالمگیری ۳۵۲/۵)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تحریر فرماتے ہیں: اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ:

(۱) جو شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر قادر ہو (یعنی قرآن سے غالب گمان رکھتا ہے کہ اگر میں امر و نہی کروں گا تو مجھ کو کوئی ضرر معتدہ) (یعنی کوئی خاص نقصان) لا حق نہ ہوگا، اس کے لیے امور واجب میں امر و نہی کرنا واجب ہے اور امور مستحبہ میں مستحب، مثلاً نماز پڑھنے کا فرض ہے تو ایسے شخص پر واجب ہوگا کہ بے نمازی کو نصیحت کرے، اور نوافل مستحب میں اس کی نصیحت کرنا مستحب ہوگا۔

(۲) اور جو شخص بالمعنى المذكور قادر نہ ہو (یعنی ایسی قدرت حاصل نہ ہو کہ ضرر سے محفوظ رہ سکے) اس پر امر و نہی کرنا (یعنی دعوت دینا) امور واجبہ میں بھی واجب نہیں۔ البتہ اگر ہمت کرے تو ثواب ملے گا۔

(۳) پھر اس امر و نہی میں قادر کے لیے امور واجبہ میں یہ تفصیل ہے کہ: اگر قدرت ہاتھ سے ہو تو ہاتھ سے اس کا انتظام (یعنی طاقت سے روکنا) واجب ہے، جیسے حکام ملکوں کے اعتبار سے، یا ہر شخص خاص اپنے اہل و عیال (گھروں اور ماتحتوں) کے اعتبار سے۔

اور اگر صرف زبان سے قدرت ہو تو زبان سے کہنا واجب ہے، اور غیر قادر کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تارک واجبات اور مرتكب مجرّمات سے (یعنی فرانپش واجبات چھوڑنے والوں اور حرام میں بیتلالوگوں سے) دل سے نفرت رکھے۔

(۲) پھر قادر کے لیے مجملہ شرائط کے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ اس امر کے متعلق (جس کی تبلیغ کر رہا ہے) شریعت کا پورا حکم اس کو معلوم ہو۔ اور مجملہ آداب کے ایک ضروری ادب یہ ہے کہ مسحتات میں مطلاقًا نرمی کرے، اور واجبات میں اولاً نرمی اور نہ ماننے پر سختی کرے۔

(۵) اور ایک تفصیل قدرت میں یہ ہے کہ دستی قدرت میں تو کبھی اس امر و نہی کا ترک جائز نہیں، اور زبانی قدرت میں نفع سے مایوسی کے وقت ترک جائز ہے۔ لیکن مودت و مخاططت (یعنی دوستی اور قریبی ربط، گھلنا ملنا) کا بھی ترک واجب ہے، مگر بضرورت شدیدہ (یعنی ضرورت کے وقت ملنا جلنا اور تعلق رکھنا جائز ہے)۔

(۶) پھر قادر کے ذمہ اس کا واجب علی الکفایہ ہے، اگر اتنے آدمی اس کام کو کرتے ہوں کہ بقدر حاجت کام چل رہا ہو تو دوسرے اہل قدرت کے ذمہ سے (وجوب) ساقط ہو جائے گا۔

اور علم کی شرط ہونے سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ آج کل جو اکثر جاہل یا کا جاہل وعظ کہتے پھرتے ہیں اور بے دھڑک روایات و احکام بلا تحقیق بیان کرتے ہیں سخت گنہگار ہوتے ہیں، اور سامعین کو بھی ان کا وعظ (اور ایسا بیان) سننا جائز نہیں۔

(بیان القرآن تحت قوله تعالیٰ ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير الآية سورۃآل عمران: ۲۵)

**فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ يَرِيهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ يَحْتَاجُ إِلَى خَمْسَةَ أَشْيَاءَ أَوْ لَهَا**  
**الْعِلْمُ لَا يَرِيَ الْجَاهِلُ لَا يَحْسِنُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا** (فتاویٰ عالمگیری ۳۵۳/۵)

(مرتب)

## سارے تبلیغ والوں کے لیے ان کتابوں کا بار بار پڑھنا

### بہت ضروری ہے

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ر</sup> نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی<sup>r</sup> کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:

تعلّم اور تعلیم (یعنی خود سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے) کے لیے بندہ ناجیز کی رائے میں مبلغین اور امکنہ تبلیغ (جن موقعوں میں تبلیغ کی جا رہی ہے ان موقعوں) میں امور ذیل کی (یعنی نیچے لکھی ہوئی) کتابوں کا رج جانا (اور عام ہو جانا) بہت ضروری ہے۔

(۱) جزاء الاعمال۔ (حکیم الامت حضرت تھانوی<sup>r</sup>)

(۲) رسالہ تبلیغ (مصنفہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب<sup>ر</sup> محققہ فضائل اعمال یعنی فضائل تبلیغ)۔

(۳) چهل حدیث شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب<sup>ر</sup> جو قرآن شریف کے بارے میں ہیں (یعنی فضائل قرآن جو فضائل اعمال میں شامل ہے)۔

(۴) فضائل نماز۔ (حضرت شیخ<sup>r</sup> کی)

(۵) فضائل ذکر۔ (حضرت شیخ<sup>r</sup> کی)

(۶) حکایات صحابہ۔ (حضرت شیخ<sup>r</sup> کی)

ان سب کتب کو اصل بطور متن ٹھہرا کر ان ہی مضامین کی اور کتب سے (یعنی دوسری کتابوں کے ذریعہ) تکمیل (و تشریع) کی جائے تو اور بہتر ہے، حق تعالیٰ سهل فرماؤں۔ اور قبول فرماؤں۔ (مکاتیب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب<sup>س</sup>: ۵۳)

## فضائل کی تعلیم کے ساتھ احکام و مسائل کی تعلیم بھی ضم کردینا چاہئے

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب آگے تحریر فرماتے ہیں:

ان مضامین کے ذریعہ جذبات کو پرواز دینے کے ماتحت دو مردم درجہ میں پھر مسائل کو ساتھ ضم کردینا چاہئے۔ (یعنی کتب فضائل اور فضائل کے مضامین کے ساتھ ساتھ احکام و مسائل کی کتابیں شامل کردینا چاہئے) ہر جگہ کی حسب ضرورت (یعنی جس زمانہ میں جن مسائل و احکام کی ضرورت ہوان احکام و مسائل کو تبلیغی نصاب میں ضم کردینا چاہئے، مثلًا عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدین کے احکام اور شعبان و محرم کے موقع ان دونوں کے احکام و مسائل سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور فضائل کی تعلیم و بیان میں اس کو بھی شامل کیا جائے، یہ ہدایت ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی)

(مکاتیب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحبؒ ص: ۵۳)

## تبلیغ میں لگنے والے حضرات ان کتابوں کو ضرور مطالعہ

### میں رکھیں تہائی میں بھی دیکھیں مجمع میں بھی سنائیں

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ کے نام ایک مکتب میں تحریر فرمایا:

بندہ ناچیز ایک امر کا بڑا متنی ہے کہ تبلیغ کے سلسلہ کی یہ چند کتابیں ان کے ساتھ تبلیغ کی لائے میں قدم دھرنے والے تین طرزوں کے ساتھ بہت اشتعال رکھیں، قلیل وقت ہو مگر مداومت ہو (یعنی گوتوڑے وقت کے لیے ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو)۔

(۱) اول تبلیغ کے نکلے ہوئے زمانہ میں تہائی میں دیکھنا۔

(۲) دیگر مجموعوں میں ان مضامین کی دعوت دینا۔

(۳) دیگر مجموعوں میں اور خصوصی تذکروں میں ان مضامین کا اپنے غیروں سے سننا اور وہ کتب تبلیغ یہ ہیں جواب تک تجویز ہو چکی ہیں اور بہت سے مضامین ذہن میں ہیں، اہل علم کے استقلال سے کھڑے ہوجانے کے بعد ان مضامین میں تصنیف کا خیال ہے۔

(۱) جزاء الاعمال۔ (حکیم الامت حضرت تھانوی)

(۲) رسائل تبلیغ چہل حدیث (شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحبؒ)۔

(۳) فضائل قرآن۔

(۴) فضائل نماز۔

(۵) فضائل ذکر۔

(۶) حکایات صحابہ۔

(۷) دونوں رسائل تبلیغ مولوی اختشام و مولوی زکریا والا۔

(جزاء الاعمال کے علاوہ کہ وہ حضرت تھانوی کا تصنیف کردہ ہے باقی سب رسائل شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ کے تصنیف کردہ ہیں اور فضائل اعمال میں شامل ہیں، جن کو تنہائی میں مطالعہ کرنے اور مجتمع میں پڑھنے اور سنانے کی حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے تاکید فرمائی ہے)۔

(مکاتیب حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحبؒ ص: ۲۰، مکتوب ۲)

اہل تبلیغ کے لیے ایک ضروری نصاب جس کو ہر صاحب تبلیغ

کو پڑھنا یا سننا چاہئے

ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

تبلیغ کے سلسلہ میں میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک نصاب مقرر ہو کرو ہر شخص کے رگ و پے میں سما جاوے، جس کو یوں جی چاہتا ہے کہ اگر ایک شخص پڑھا لکھا ہے (وہ تو)

اول تہائی میں دیکھا کرے پھر سنایا کرے، اور اس میں جو اعمال ہوں اس پر اول اپنے آپ کو جمانے کی کوشش کرے، اس کو مجع میں پھیلاوے۔  
بالفعل پانچ کتابوں کا اہتمام ہے۔

(۱) راہ نجات (شاہ رفیع الدین صاحب دہلویؒ کی)

(۲) جزاء الاعمال۔ (حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی)

(۳) چهل حدیث (شیخ الحدیث والی)۔

(۴) فضائل نماز۔ (شیخ الحدیث)

(۵) حکایات صحابہ۔ (شیخ الحدیث)

ان پانچوں کے جزو زندگی ہونے پر اہتمام کیا جاوے ہے ادا آپ بھی اس کی پابندی سے مجھے مطلع فرماؤ۔ (مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۹۲)

## تبلیغی حضرات کو کتبِ حدیث کی ”کتاب الإیمان“ کی تعلیم کا اہتمام اور اس نصاب کی تکمیل

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:

نماز کے بعد مولانا (محمد الیاس صاحبؒ) جگہ میں واپس تشریف لے گئے، حاضرین کو دو گروہوں میں منقسم کیا گیا ایک عربی داں طبقہ، اور ایک غیر عربی داں طبقہ کو تحریک کے متعلق اردو کتابوں کی تعلیم ہوتی رہی، اور عربی داں طبقہ کو کتاب الایمان سے چند حدیثیں پڑھ کر سنائی گئیں، اور ان پر باہم مذاکرہ رہا، معلوم ہوا کہ یہاں کے مقیم حضرات کو اس نصاب کی تکمیل ضروری ہے۔

(مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی دینی دعوت ص: ۱۶۳)

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی موجودگی

میں مرکز نظام الدین کا حال نقل فرماتے ہیں:

دو پھر سے پہلے حدیث کا دور رہا اور خوب رہا۔ ظہر کے بعد حدیث کا دور رہا اور خوب رہا (یعنی حدیث کی کتابوں سے حدیثیں پڑھ کر سنائی گئیں) مولانا واصف صاحب نے کتاب الجہاد سے عجیب و غریب حدیثیں سنائیں۔ (دینی دعوت ص: ۱۶۵)

## فضائل نماز کتاب کی اہمیت اور اس کو دیکھنے کی ترغیب

مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے ارشاد فرمایا:

(۱) نماز کی رفتار یہ ہے کہ آج کے دن سے دوسرے دن کی نماز ترقی کرتی جائے، اس کے لیے فضائل نماز (مؤلف شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ) دیکھو۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۹۲)

نیز ارشاد فرمایا:

(۲) فضائل نماز، جو کتاب ہے اس کو پڑھ لکھے (حضرات) خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی سنادیں اور نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے لیے خدا کی وعیدیں عام لوگوں کے ذہن نشیں کرائی جائیں۔ (مکاتیب حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص: ۱۰۳)

**فائده:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے فرمان سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ مختلف پہلوؤں سے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے، ہر ہنگی کام کرنے والے کو اس کتاب کو انفراداً اجتماعاً پڑھنا چاہئے۔

## پورے دین کا خلاصہ

ارشاد فرمایا:

(۱) جو کچھ دین کے احکامات ہیں سب حق ہیں۔  
اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، کتاب سچی ہے، نیابت حق سے، فرشتے حق ہیں۔  
اللہ تعالیٰ کے اسماء کی صفات، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کا

منظراً و قبر اور حشر کا منظر ہونا۔

(۲) بس تمام کام دین و دنیا کے اللہ کی رضا کے موافق کرے، اللہ کے سوا کسی کو قادر نہ سمجھئے، یہ ہے دین کا خلاصہ۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۹۹-۱۰۰)

## یہ بھی ہمارا کام ہے اس میں بھی حصہ لینا چاہئے

سابقین کی باتوں کو زندہ رکھنا ہمارا کام ہے۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۳۹)

**تشريع:** سابقین سے مراد ہمارے علماء و مشائخ، فقہاء و مجتہدین، مصلحین و مجددین، جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاح امت کا کام کیا اور دین کی صحیح ترجمانی کی، امت کی اصلاح کے لیے حالات کے لحاظ سے مختلف طریقے اور تدبیریں و ہدایتیں بیان فرمائیں جو ان کی کتابوں میں محفوظ اور تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہیں، ان ساری باتوں کی قدر کرنا ان کی حفاظت کرنا، اور ان علوم کو زندہ رکھنا یہ بھی ہمارا کام ہے۔

حضرتؐ کے اس مختصر ارشاد میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں مثلاً ہمارے سابقین، اسلاف اور مشائخ نے علوم دینیہ کی نشر و اشتاعت کے لیے مدارس و مکاتب کا نظام قائم کیا، تزکیہ نفس تصفیہ، قلوب کے لیے خانقاہوں کا نظام قائم کیا اور پیری مریدی کے سلسلہ کو جاری رکھا، امت کی اصلاح اور روحانی و باطنی فیوض کے لیے رمضان شریف میں اعتکاف کے سلسلہ کو سنت کے مطابق جاری رکھا، امت میں پھیلے ہوئے مفاسد و منکرات اور بدعتات کی اصلاح کے لیے خطبات جمعہ اور جلسوں میں تقریروں کا اہتمام کیا، باطل فرقوں کی تردید کے لیے موقع پڑنے پر مناظرہ بھی کیا، دین کے مختلف شعبوں کو زندہ کرنے اور زندگی کے مختلف شعبوں کی اصلاح کے لیے علمی و اصلاحی کتابوں و رسائل کی تصنیف کا سلسلہ جاری رکھا، چنانچہ اکابر علماء کی کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے، حضرتؐ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف اور سابقین کی علمی کاؤشوں اور ان کی باتوں کو زندہ رکھنا یہ بھی ہمارا کام ہے، اس میں بھی ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہئے۔

## باب ۵

# مختلف دینی جلسوں کی اہمیت معاشرہ میں پھیلی ہوئی برا نیوں کو دور کرنا بھی ضروری

### اور اپنا کام ہے

حضرت مولانا الیاس صاحب<sup>تبلیغی</sup> میوات میں (جہاں تبلیغی کام کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں) اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اپنے بعض خاص متعلقین کو ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں:

.....اسی میں سے باہمی نکاح کا استنکاف ہے (یعنی آپس میں قریبی رشتہوں میں نکاح کرنے کو جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے اس کو معیوب اور فتح سمجھنا اور اس سے عار آنا) جس کو پہلے تو سننا ہے کہ حرام اور کفر سمجھتے تھے، اب زبان سے تو حلال اور جائز کہتے ہیں مگر معاملہ وہی ہے چنانچہ موضع اٹاؤڑ تخلیل نوح کے ایک مرد و عورت نے باہمی راضی رضا ہو کر اس خیال سے کہ اگر یہاں نکاح ہو گیا تو قوم سخت ستائے گی ملک سے نکل کر نکاح کر لیا، اور ضلع ”گوڑگانوہ“ میں بودو باش اختیار کر لی تھی، مگر افسوس ہے کہ جاہل قوم نے دولہا کو جس کا نکاح رمضان المبارک کے اخیر جمعہ کو ہوا تھا، عید کے تیسرا دن جمعہ کے روز قتل کر کے ہاتھ پیر توڑ کر مٹی کے تیل سے جلا کر راکھ کو کسی دریا میں بہادیا۔

یہ مضمون بہت زور سے بیان کرنے کے قابل ہے کہ کفر کو، شرک کو، زنا کو اور کسی اکبر الکبائر کو (بڑے سے بڑے گناہ کو) ایسا معیوب اور فتح (برا) نہ سمجھیں اور اللہ کے

حلال کردہ کو اس قدر معیوب سمجھیں، آپ ضرور بیان فرمادیں کہ کس طرح ایمان ان کا باقی رہا، اور کیا سبیل ان کے ایمان کی باقی رہنے کی ہو سکتی ہے؟

(دینی دعوت ص: ۲۲۳)

## دعوت و تبلیغ کے ساتھ دوسرے کاموں کی بھی فکر

### حکومت کی جبریہ تعلیم کی مخالفت اور اس کا سد باب

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی دینی

کوششوں اور دینی حمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

اسی دینی حمیت کی بنا پر آپ نے ابتداء میں حکومت کی جبری تعلیم کی سخت مخالفت کی اور علماء کو اس کی طرف متوجہ کیا، شدھی سنگھٹن کے زمانہ میں تحریک ارتاد کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئے اور وہ میوات میں کامیاب نہیں ہونے پائی۔

(مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی دینی دعوت ص: ۲۲۲)

**فائده:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے اس طرز عمل میں اصحاب تبلیغ کے لیے بڑی عبرت اور سبق ہے کہ دعوت و تبلیغ کے صرف چند کاموں ہی کو لے کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ حسب ضرورت اور حالات کے تحت دین کے دوسرے کاموں کو بھی اسی دھن کے ساتھ کرنا ہے جس طرح دعوت و تبلیغ کے دوسرے کام کرتے ہیں، خواہ اصلاح معاشرہ اور دوسرے جلسوں کی شکل میں ہو یا کسی دوسری شکل میں جیسا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ دعوت و تبلیغ کے ساتھ دوسرے کاموں کو بھی کتنی لگن کے ساتھ کرتے تھے۔

بہت سے تبلیغی احباب کا یہ کہنا کہ ہم کو دعوت و تبلیغ کا کام اخلاص و استخلاص سے کرنا چاہئے اور اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کام میں نہ حصہ لینا ہے نہ کسی دوسرے کام میں شرکت کرنا ہے، تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ دین کے

کاموں کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ فکر و نظر اور طرز عمل حکم خداوندی ”تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْتَّقْوَى“ کے بھی خلاف ہے نیز بانی تبلیغ مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی ہدایت اور ان کے طرز عمل کے بھی خلاف ہے۔

## دینی جلسوں اور اصلاحی پروگراموں کے کرنے کی

### اہمیت اور تاکید

**ارشاد فرمایا:** جلسہ کرو، جس میں اپنے قرب کے اضلاع کے علماء کو سیکھنے اور بڑے علماء کو سکھانے کے لیے بلاو۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۳۷)

**تشريع:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ مخصوص نظام کے تحت ہونے والی دعوت و تبلیغ کے علاوہ دین کی دوسری خدمتوں مثلاً دینی جلسوں اور اصلاحی پروگراموں کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے، اور تبلیغ سے منسلک حضرات کو دینی جلسوں کے کرنے اور اس میں شرکت کی بھی تلقین اور ہدایت فرماتے تھے۔

اپنی زیر نگرانی اس نوع کے جلسوں میں خود حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانویؒ کو جلسوں میں تقریر کے لیے بھیجا، اور مختلف موضوعات کی تعیین فرمائی، کہ آئندہ یہ موضوع بیان کرنا۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا دائرہ عمل تو صرف چھنبر ہیں جن پر محنت کرائی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ بہت سے فرائض و واجبات کا احیاء اور امت کو ان کی طرف توجہ دلانا، اسی طرح بہت سے منکرات و محمرات پر نکیر اور معاشرہ میں رانج گناہوں پر تہذید و تنبیہ وہ انہی جلسوں اور اصلاحی پروگراموں، جمعہ کے دن تقریروں کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کو ان جلسوں اور تقریروں کی بھی بڑی اہمیت تھی، جمعہ کے دن بھی آپ

بعض علماء کو اصلاحی تقریروں کے لیے بعض مساجد میں بھیجا کرتے تھے۔  
دین کے جملہ مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ نے اپنے تبلیغی احباب کو حکم دیا کہ  
جلسہ کرو، اور اس سلسلہ کو کامیاب بنانے اور جاری رکھنے کے لیے حکم دیا کہ اکابر علماء کو  
بلانے کے ساتھ علاقہ کے علماء، نوجوان فضلاء کو بھی بلا و تاکہ وہ سیکھیں اور آگے سلسلہ  
جاری رہے۔

## جلسوں کی اہمیت اور جلوسوں میں علماء کرام کی تقریر

### کرانے کا اہتمام

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:

مولانا (محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup>) اہل دہلی اور تجارت سے تقاضا فرماتے رہتے تھے کہ وہ  
مولانا ظفر احمد صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں، جلسے کریں، اور (جلسہ میں)  
مولانا سے تقریر کرائیں، ان حضرات کے اہتمام سے شہر میں کئی جلسے ہوئے، آخری چہار  
شنبہ کے جامع مسجد والے جلسہ کے علاوہ حوض والی مسجد، کالی مسجد (ترکمان دروازہ) بنے  
کی سرائے والی مسجد، قصاب پورہ اور جامعہ ملیہ میں جلسے ہوئے جن میں مولانا ظفر احمد  
صاحب اور دوسرے مقررین نے تقریریں کیں۔

(مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کی دینی دعوت ص: ۱۸۸)

### مالداروں کو صحیح مصرف میں ادائے زکوٰۃ کی تاکید

### زکوٰۃ کے موضوع پر تقریر کرانے کا اہتمام

مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:

ان دنوں (یعنی آخری ایام میں) چند باتوں کا زندگی بھر سے زیادہ اہتمام رہا

.....تیرے زکوٰۃ ادا کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے صحیح شرعی طریقہ اور آداب کی تلقین مولانا کو اپنی زندگی میں اس کی طرف خاطر خواہ توجہ کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن ان دنوں میں (اپنی عمر کے آخری ایام میں) اس کی طرف بڑی توجہ تھی۔

تجار و اہل ثروت کا مجمع رہتا تھا، مولانا نے یہ مضمون بار بار فرمایا اور دوسروں سے کہلوایا کہ آدمی کو اپنی زکوٰۃ کا اہتمام اپنی عبادت کی طرح کرنا چاہئے، اس کے مستحقین کو خود تلاش کرنا چاہئے، اس کو ادا کرتے وقت خود ممنون ہونا چاہئے۔

مولانا ظفر احمد صاحب اور دوسرے حضرات نے (حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کے حکم سے) اس پر بار بار تقریریں کیں۔

(دینی دعوت ص: ۱۸۶)

## ایک جلسہ کے لیے دعوت نامہ

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

عرض آنکہ آپ مندرجہ ذیل صاحبان کو میری طرف سے دعوت دیں کہ وہ سب صاحبان جلسہ ”پیپا کا“ میں جو کہ صفر کی تیسرا توار کو قرار پایا ہے شرکت فرمائ کر شکریہ کا موقع دیں، چونکہ ایک نہایت ضروری اور نہایت اہم کام ہے اس واسطہ اس مرتبہ یہ خصوصی دعوت نامہ آپ کی خدمت میں ارسال ہے۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۱۲۲)

## جلسہ کی کامیابی کی کوشش کرنے والوں کیلئے دعا اور خوشخبری

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

جلسہ کی کامیابی کی کوشش کرنے والوں کو مژدہ (خوشخبری) سنادو کہ ان شاء اللہ ثم ان شاء اللہ جب کہ باہمی جدال کے منظر کو اعلاءً کلمۃ اللہ کی مجلس سے بدلنے کی کوشش کی ہے، تو انشاء اللہ قیامت کے دن اس بڑے مجمع میں جس میں اولین

وآخرین، جن وانس اور سب مخلوق انبیاء و ملائکہ کی جماعتیں ہوں گی تو یہ کارنامہ انشاء اللہ بر سر منبر مذکور ہو گا، اللہ اس دن کی نیک نامی کے لیے ہمیں جانوں کا دینا اور مرثنا نصیب فرمائے۔ (دینی دعوت ص: ۳۰۲)

## جلسہ میں باہر سے آنے والے مہمانوں کے کھانے کا

### انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ ایک اور مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

بخدمت عنایت فرمائے ..... زادت عنایت کم

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

عرض آنکہ بندہ جلسہ نوح کے بعد سخت پریشان ہے کہ اس مرتبہ جلسہ نوح میں ہمیشہ دستور کے موافق مہمانوں کے لیے کھانے کا کیوں نہیں انتظام کیا گیا، کیا اس مرتبہ ہمیشہ کی طرح منتظمین کے لیے سعادت اور سرمایہ آخرت سے بہرہ اندوز ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہی؟ اور کیا اب وہ آخرت کا سرمایہ جمع کرنے سے مستغنی ہو گئے؟ اس کا جواب بواپسی ڈاک بندہ کے پاس جلد بھیجا جاوے کہ کیا وجہ ہیں جن کی وجہ سے (باہر سے آنے والے مہمانوں اہل جلسہ کے) کھانے کا انتظام نہ ہو سکا۔ والسلام

محمد الیاس عفی عنہ

ارشادات و مقتوبات ص: ۱۲۳

## مدارس کے طلبہ کو مختلف مساجد میں امامت کے لیے

### مقرر کر دیا جائے

عنایت فرمائے حافظ صاحب                  السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

جو طلبہ آپ کے مدرسہ میں اس لاکٹ ہوں کہ وہ نماز پڑھ سکتے ہوں ان طلبہ کو مسجدوں میں مقرر کر دیا جائے، جہاں پر نمازی اچھے (یعنی زیادہ) ہوتے ہوں وہاں پر پانچوں نمازوں پڑھا دیا کریں، اور جہاں پر زیادہ نہ ہوں وہاں پر کسی ایک دو وقت پر پڑھا دیا کریں تو بہت ہی بہتر ہو، اس صورت میں دینی و دنیوی دونوں منافع ہوں گے تم کو بھی اور عوام کو بھی۔ فقط والسلام

محمد الیاس عفی عنہ

ارشادات و مکتوبات ص: ۱۳۳، مکاتیب مولانا محمد الیاس عس: ۱۱۰



## منکرات پر نکیر کی

ضرورت و اہمیت اور اس کا طریقہ



## باب ۶

### منکرات پر نکیر کی ضرورت و اہمیت

### امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں دعوت کے فرض شعبے ہیں

**فرمایا:** فرائض کا مقام نوافل سے بہت بلند تر ہے بلکہ سمجھنا چاہئے کہ نوافل سے مقصود ہی فرائض کی تکمیل یا ان کی کوتاہیوں کی تلافی ہوتی ہے، غرض فرائض اصل ہیں اور نوافل ان کے توازع اور فروع، مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ فرائض سے تو غفلت بر تھے ہیں اور نوافل میں مشغول رہنے کا اس سے بدرجہاز یادہ اہتمام کرتے ہیں، مثلاً آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ”دعوت الی الخیر“، ”امر بالمعروف“ اور ”نہی عن المنکر“ (غرض تبلیغ دین کے) یہ تمام شعبے اہم فرائض میں سے ہیں، مگر کتنے ہیں جوان فرائض کو ادا کرتے ہیں، لیکن اذکار نفلیہ میں اشتعال و انشہاک رکھنے والوں کی اتنی کمی نہیں۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۱۶-۲۲)

**فائده:** حضرتؐ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کے تین اہم شعبے ہیں، اور تینوں فرض ہیں، دعوت الی الخیر، یعنی تمام بھلے اور نیک کاموں کی لوگوں کو دعوت دینا، دوسرے معروفات کا حکم کرنا خاص طور پر اپنے مبلغین اور قریبی لوگوں کو، تیسرا منکرات پر نکیر کرنا یعنی تمام قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں پر روک ٹوک کرنا خصوصاً اپنے قریبی اور متعلقین لوگوں کو، حضرت بطور شکایت اور تنبیہ کے فرمار ہے ہیں کہ لوگ نوافل کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں لیکن فرائض کی ادائیگی میں جس میں معروفات کو پھیلانا اور منکرات پر نکیر کرنا بھی شامل ہے کوتاہی کرتے ہیں۔

## تمام گناہ قہر خداوندی کا دروازہ ہیں منکرات پر نکیر کرنا اور گناہوں کو بند کرنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے

**فرمایا:** معصیت قہر کا دروازہ ہے۔

معصیت (گناہوں) سے بچو، معصیت سے اللہ کا غضب آتا ہے۔

مکلف چاہے مرد ہو چاہے عورت، اپنے فرائض کے ترک سے مور دلعنٰت و غضب الہی ہوتا ہے۔

سودی معاملہ کرنا خدا کی خدائی کے خلاف اقدام کرنے پر جرأت کرنا ہے۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۲۱-۲۷-۳۰-۳۲)

**تشریح:** منکر، معصیت، گناہ سب ایک ہی چیز ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، خواہ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر ہو یا حرام و ناجائز کا ارتکاب کر کے، دونوں ہی صورتیں منکرات و معاصی کے دائرة میں آتی ہیں اسی کے متعلق حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ فرماتے ہیں کہ معصیت یعنی گناہ کے کام اور مختلف قسم کے منکرات حق تعالیٰ کے قہر اور عذاب کو لانے والے ہیں، ان کی وجہ سے حق تعالیٰ کا غصب نازل ہوتا ہے اور ایسے لوگ لعنت کے مستحق اور حق تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، مثلاً ناج، گانے، فخش اور بے حیائی و بے پردوگی کی کثرت، سودی معاملات، ناجائز کا روبراء، یہ سب منکرات اور معاصی میں سے ہیں، ان کا مرتكب ہونا حق تعالیٰ سے بغاوت کرنا اور عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، اس لیے تمام اہل ایمان کو خصوصاً اصحاب تبلیغ کو چاہئے کہ وہ اپنے ماحول و معاشرہ کا جائزہ لیں اور تمام قسم کے گناہ اور منکرات جو چھلیے

ہوئے ہیں، یا تمام فرائض و واجبات جن کو لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، ان سب کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں تقریر و تحریر اور جلسہ، جس ذریعہ سے ممکن ہو یہ کام کریں، خود اگر نہیں کر سکتے تو جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں ان کا تعاون کریں، ان کے کام میں شرکت کریں کیونکہ یہ ہمارا کام ہے اور تبلیغ کے اصل مقاصد میں سے بلکہ اصل تبلیغ یہی ہے یعنی معروفات کو پھیلانے کے ساتھ منکرات کو بند کرنے کی کوشش کرنا۔ (مرتب)

## اس کے بغیر تمہاری تبلیغی محنت ناقدری کا شکار ہو جائے گی

**فرمایا:** جب تک مخاطب میں منکر کے قبیح جانے اور معروف کے مستحسن سمجھنے کی الہیت نہ ہو، اس سے حکم کے درجہ میں کچھ کہنا خود امر کی ناقدری کرنا ہے، اوامر و نواہی کی حسر کھنے والے کے ذمہ ہے کہ پہلے منکر کے نقسان اور معروف کے نفع کو اپنے قول و عمل سے اتنا ثابت کر دے کہ مخاطب پر ضرر و نفع واضح ہو جائے۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۱۸)

**تفسیر:** مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے چونکہ دواہم جزء ہیں امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اس کے بغیر تبلیغ کامل نہیں ہو سکتی، اس لیے تبلیغ میں دونوں کام کرنا ہے، یعنی معروف کی تبلیغ اور منکرات پر نکیر، لیکن اس تبلیغ سے پہلے ضروری ہے کہ مخاطب کی صلاحیت و ذہنیت کو دیکھو، اگر وہ معروف کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھتا، منکر و معصیت کی قباحت اور اس کی خرابیاں اس کے ذہن میں نہیں، تو وہ تمہاری تبلیغ کی ناقدری کرے گا، اس لیے تبلیغ سے پہلے ضروری ہے کہ معروفات کا استحسان یعنی اچھائیاں، خوبیاں، فوائد اور منکرات کی خرابیاں اور نقصانات اپنے قول و عمل سے اس طرح بیان کر دو کہ اس کو ایس کا یقین ہو جائے کہ تم کو اس کی خیر خواہی مقصود ہے اور اس کی خیر خواہی میں تم اس سے کہہ رہے ہو، پھر تمہاری تبلیغ کا فائدہ ہو گا، اور وہ پورے طور پر موثر ہو گی۔ اس مقصد کے لیے یعنی طاعات و معروفات کی اچھائیوں اور منافع اور منکرات و

معاصلی کی خرایوں اور نقصانات کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے مولانا محمد الیاس صاحبؒ حضرت تھانوی کی کتاب ”جزاء الاعمال“ کے مطالعہ کی تاکید فرماتے تھے، بلکہ اس کو تبلیغی نصاب کا جزء قرار دیا تھا، لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ تمام تبلیغی احباب کو چاہئے کہ اس کتاب کو اپنے مطالعہ میں رکھیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔

## اہل تبلیغ خصوصاً علماء کرام پر ضروری ہے کہ دنیا میں پھیلے

## ہوئے تمام منکرات و معاصلی کو ختم کرنے کی کوشش کریں

(حدیث پاک کی اہم کتاب) ”مشارق انوار“ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پہلے صفحہ میں ایک اثر ہے کہ قیامت کے دن مظلوم طالموں سے اپنا حق لینے کھڑے ہوں گے، ان مظلوموں کے بار (بوجھ) طالموں کے سر دھرے (ڈالے) جائیں گے، اس جانگداز (اور سخت) وقت میں ایک جماعت (ان) مظلوموں کی ہوگی یہ اپنا حق جتا گیں گے کہ ہم معاصلی اور گناہ کے مرتكب ہوئے تھے، اور تم ہم کو نہیں روکتے تھے۔

لہذا تمام اہل زمانہ کو ضروری ہے کہ ہر ہر لمحہ (ہر وقت) اس کے خلاف منکرات کا انهدام اور اطاعت کے انصرام (یعنی منکرات و معاصلی کو ختم کرنے اور بند کرنے اور اطاعت و عبادت کو پھیلانے) میں پوری پوری سمجھی کرے، جو حق (واجب ہے اور) مسلمانوں کے ہر ہر فرد پر فرض ہوگا، اس میں علماء اسلام کی جماعت یقیناً پیش ہوگی۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۱۱۳)

## مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا ہر وقت منکر پر نکیم کرنے کا مزاج

مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:

مولانا (محمد الیاس صاحبؒ) امر بالمعروف و نهی عن المنکر کے بارے میں خاص

اصول اور ترتیب و تدرج کے قائل تھے، لیکن جب کھلا ہوا منکر پیش آ جاتا تو قطعاً مادہ نت و رواداری (اور چشم پوشی) کو گوارہ نہ کرتے۔ فَإِذَا تَعَدَّى الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ۔ پھر اس استقامت اور تورع (تقویٰ) کا اظہار فرماتے جوان کے اسلاف کرام، مشائخ اور علماء راشخین کا شیوه ہے۔ (دینی دعوت ص: ۲۶۶)

### بذریعہ خط منکر پرنکیر

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے ایک منکر پرنکیر کرتے ہوئے ایک صاحب کو خطا لکھا کہ:

آپ نے (بچہ کے انقال اور حادثہ ہو جانے پر) یوسف کو (ایسی) تحریر لکھی، اس سے آپ کے رنج کا نہ ہونا ٹپکتا ہے، یہ شرعاً منکر ہے، رنج کی باتوں سے واقعی رنجیدہ ہونا یہ انشاء اللہ تھیں ضرور ہو گا لیکن رنج سے متاثر ہونے کا اظہار بھی ضروری ہے، حق تعالیٰ جیسے حالات بھیجیں ان کے مناسب تاثراً اور اس کا اظہار آپ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے۔ (اسی طرح ایک بچہ کی ولادت کے موقع پر انہیں بزرگ عالم کو لکھوایا) یہ حق تعالیٰ شانہ کی ایک نعمت عظمی ہے جس پر دل سے خوش ہونا چاہئے، اور اگر حقیقی اور قلبی خوشی نہ ہو تو کم سے کم اظہار خوشی اگرچہ مصنوعی ہو، ہونی چاہئے، اور شکرانہ میں بطور خوشی آنا چاہئے۔ (مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی دینی دعوت ص: ۲۳۳)

### منکرات پر عملی نکیر

حلیم (انظر) کالج میں حضرت جی (مولانا محمد الیاس صاحبؒ) تصویریں کے سبب اندر کمرہ میں نہیں گئے۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۳۹)

**تشریح:** دعوت و تبلیغ کے دواہم شعبے ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر یعنی اچھائیوں کو پھیلانا، برا کیوں اور گناہوں کے کاموں سے منع کرنا، پھر دعوت و تبلیغ یعنی

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، قول اور عمل، یعنی تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قول سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> جامع تبلیغ کے حامل تھے، جس میں معروفات کو پھیلانا بھی ہوا اور منکرات پر نکیر بھی، قول سے بھی، عمل سے بھی، منکرات پر نکیر کرنے کی عملی شکل یہی ہوتی ہے کہ اس منکر و معصیت کے کام میں شرکت نہ کی جائے، بلکہ اس سے بیزاری کا اظہار ہو، چنانچہ مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> نے ایسا ہی کیا، شہر کانپور کے حلیم کالج میں پورے اکرام و اهتمام سے آپ سے ایک کمرہ میں تشریف آوری کی درخواست کی گئی آپ نے دیکھا کہ اس میں تصویریں ہیں، آپ نے صاف منع فرمادیا اور کمروں میں آؤزیں تصویریں کی وجہ سے آپ اس کمرہ میں داخل نہیں ہوئے، اسی کا نام ہے منکرات پر نکیر عملی۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کا یہ عمل عین سنت کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، دروازہ پر پہنچے تو دیکھا تصویر دار تو شک یا پردہ لٹکا ہوا ہے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر نکیر فرمائی، اور اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوئے جب تک (تصویر دار تو شک یا پردہ) ہٹا نہیں دیا گیا، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: و عنہا اشتہرت نمرقة فیها تصاویر فلما راھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب فلم یدخل فعرفت فی وجهه الکراہیة لخ۔

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ ۳۸۵/۲، باب تصاویر)

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> نے اس طرح کر کے تمام تبلیغی بھائیوں کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا، اس لیے تمام تبلیغی بھائیوں کو چاہئے کہ وہ امر بالمعروف کے ساتھ منکرات پر نکیر کو بھی مدنظر رکھیں اور معصیت و منکر کے کسی موقع اور مجلس میں شرکت سے احتراز کریں، بعض حضرات کو دیکھا کہ نکاح تو تبلیغی اجتماع میں کرایا بعد میں رخصتی و شادی کے موقع پر خوب منکرات میں شرکت ہوئی، جس شامیانہ اور پنڈال میں دعوت وغیرہ کا نظام کیا گیا اس میں بھی بکثرت تصویریں بنی ہوئیں، خود مجلس میں بھی تصویر کشی کا

ماحول رہا، کھانا کھلانے کا طریقہ بھی خلاف سنت، یہ سب چیزیں خود منکرات و معاصی میں شامل ہیں، جن سے پچنا لازم ہے۔

## منکرات پر نکیر کا مناسب طریقہ خطاب خاص، خطاب عام کی تفصیل

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے فرمایا:

ہماری اس دعوت تبلیغ کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ: خطاب عام میں سختی برتنی جائے لیکن خطاب خاص میں انتہائی نرمی بلکہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کی اصلاح کے لیے خطاب عام ہی کیا جائے، حتیٰ کہ اگر اپنے کسی خاص ساتھی کی کوئی غلطی دیکھی جائے تو حتیٰ الوع اس کی اصلاح کی کوشش بھی خطاب عام ہی کے ضمن میں کی جائے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ تھا کہ خاص لوگوں کی غلطیوں پر تنبیہ بھی آپ ”مابال أقوام“ (لوگوں کا کیا حال ہو گیا جو ایسی حرکت کرتے ہیں) کے عمومی عنوان سے فرماتے تھے، اور اگر خطاب خاص ہی کی ضرورت سمجھی جائے تو علاوہ محبت اور نرمی کے اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ فوراً اس کو نہ ٹوکا جائے، ایسی صورت میں اکثر لوگوں کا نفس جواب دہی اور محبت بازی پر آمدہ ہو جاتا ہے، لہذا اس وقت کو تو ٹال دیا جائے پھر دوسرے مناسب وقت میں خلوص و محبت کے ساتھ اس کی غلطی پر اس کو متنبہ کیا جائے۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص: ۸۳-۱۰۱)

## خطاب خاص میں نرمی اور خطاب عام میں سختی

ایک صحبت میں فرمایا — تبلیغ کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عمومی خطاب میں پوری سختی ہو اور خصوصی خطاب میں نرمی، بلکہ حتیٰ الوع خصوصی اصلاح کے لیے بھی عمومی خطاب ہی کیا جائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص افراد کا بھی کوئی جرم

معلوم ہوتا تو بھی اکثر آپ ”ما بال أقوام“ کہہ کر ہی خطاب و عتاب فرماتے۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۳۷-۳۱)

**فائده:** یہ بات قابل غور اور قابل لحاظ ہوتی ہے کہ منکرات پر نکیر خطاب خاص سے کہاں اور کن لوگوں کو اور خطاب عام سے کب اور کن لوگوں کو؟

علماء محققین نے فرمایا ہے عام لوگوں کو تو عمومی انداز میں خطاب عام سے نکیر کی جائے اور خاص لوگوں سے یعنی جن سے خصوصی تعلق ہو مثلاً استاذ شاگرد، پیر مرید، نگران ماتحت، باپ بیٹا، اور خاص احباب و متعلقین میں بڑا چھوٹ کو خطاب خاص سے نکیر کرنے کا مکلف ہے لیکن زمی کے ساتھ، بلکہ بعض اہل تعلق کو خطاب خاص سے نکیر کرنے اور غلطی پر تنبیہ کرنا واجب ہے جیسے باپ بیٹے کو، شوہر بیوی کو، استاذ شاگرد کو اگر نکیر کرنے میں کوتاہی کریں گے تو خود بھی گنہگار ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ قریبی لوگوں اور خاص متعلقین کو آپ خطاب خاص سے بروقت نکیر اور تنبیہ فرماتے تھے، مثلاً حضرت عائشہؓ نے ایک مرتبہ دوسری بیوی کے متعلق نامناسب کلمہ کہہ دیا آپ نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ عائشہؓ تم نے اتنی سخت بات کہہ دی کہ اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔

## باطنی قوت کے ذریعہ بھی منکرات پر نکیر کی ضرورت

### ولی اور قطب بننے کا طریقہ

**فرمایا:** حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ”من رای منک منکراً فلیغیرہ بیده فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبه“ (مسلم شریف، مشکوٰۃ ۲۳۶/۲) کے آخری جزء فبقلبه کا ایک درجہ اور اس کی ایک صورت یہ بھی

ہے کہ ازالہ منکر کے لیے اصحاب قلوب اپنی قلبی قوتوں کو استعمال کریں، یعنی ہمت و توجہ کو کام میں لائیں۔

پھر اسی ذیل میں فرمایا — امام عبد الوہاب شعرانی نے مقام قطبیت حاصل کرنے کی ایک تدبیر لکھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر جہاں جہاں جو جو معروفات مٹھے ہوئے ہیں اور مردہ ہو گئے ہیں، ان کا تصور کرے پھر دل میں ان کے مٹھے کا ایک درد محسوس کرے اور پورے الحاج اور تضرع کے ساتھ ان کے زندہ اور راجح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اپنی قلبی قوت کو بھی ان کے احیاء کے لیے استعمال کرے، اسی طرح جہاں جہاں جو جو منکرات پھیلے ہوئے ہیں ان کا بھی دھیان کرے اور پھر ان کے فروع کی وجہ سے اپنے اندر ایک سوزش اور دکھ محسوس کرے، پھر پورے تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کو مٹادیئے کے لیے دعا کرے اور اپنی ہمت و توجہ کو بھی ان کے استیصال (ختم کرنے) کے لیے استعمال کرے۔

اماں عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ ”جو شخص ایسا کرتا رہے گا انشاء اللہ وہ قطب عصر ہوگا“۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۱۷-۲۷)

**فائده:** منکرات کے ازالہ کی یہ باطنی قوت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اللہ کے خاص بندوں کو جو خانقاہوں میں رہ کر اپنے مشائخ کے ذریعہ ریاضت و مجاہدہ کر کے اپنے باطن کو روشن اور منور کر لیتے ہیں انکو یہ قوت حاصل ہوتی ہے، منکرات پر نکیر کا یہ طریقہ اور تبلیغ کا یہ درجہ اہل خلوت و عزلت اور خانقاہوں کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

## تبلیغ کی خاطر باطنی اور روحانی قوت کو حاصل کرنے اور

### استعمال کرنے کی ضرورت

ایک جمعہ کو نجیر کی نماز مولانا یوسف صاحب نے پڑھائی، اور قوت نازلہ پڑھی، نماز کے بعد ایک میواتی خادم نے آواز دی کہ حضرت یاد فرماتے ہیں، مولانا نے ارشاد فرمایا کہ: ”قوت نازلہ میں دوسرے کفار کے ساتھ ان غیر مسلم فقراء (درویش، جوگی) اور اہل ریاضت کی نیت بھی کرنی چاہئے، جو انہی قلبی قوت کو اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔“

آپ نے سہارنپور کے اس مناظرہ کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا جس میں ایک ہندو سنیاسی مناظر اسلام کے خلاف اپنی قوت قلب استعمال کر رہا تھا اور مسلمان مناظر اظہار خیال میں وقت محسوس کر رہا تھا، مولانا غلیل احمد صاحب (سہارنپوری) تشریف رکھتے تھے، ان کو توجہ دلائی گئی، آپ نے جب توجہ کی تو سادھومتوحش (اور پریشان) ہو کر جلسے سے اٹھ گیا، اور مناظر اسلام کی زبان کھل گئی۔

(مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ر</sup> کی دینی دعوت ص: ۱۷۵)

**فائده:** یہ باطنی قوت تصوف اور خانقاہ کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، اس سے خانقاہ کی افادیت و اہمیت اور ضرورت خوب ظاہر ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ میں بسا اوقات اس کی بھی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ اس لیے یہ شعبہ یعنی تصوف و خانقاہ بھی ہماری تبلیغ ہی کا شعبہ سمجھا جائے گا۔ (مرتب)

## بابے

### خلوت و عزلت اور حق تعالیٰ سے مناجات کی ضرورت

#### انبیاء علیہم السلام کی حالت

**ارشاد فرمایا:** انبیاء علیہم السلام پر براہ راست اللہ کی جانب سے امر آئے ہیں، لیکن مخلوق میں پیش کرنے کی بنابر ان پر بھی مخلوق کی ظلمت کا اثر ہوتا تھا، اس لیے تنہائیوں میں اللہ کے ذکر کے ذریعہ اس زنگ و ظلمت کو دھوتے تھے۔

(ارشادات و مکتوبات ص: ۸۷)

**فرمایا:** انبیاء علیہم السلام باوجود یہ کہ معصوم اور محفوظ ہیں اور علوم و ہدایات براہ راست حق تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ان تعلیمات و ہدایات کی تبلیغ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جانا اور ان کے پاس آنا جانا ہوتا ہے تو ان کے مبارک و منور قلوب پر بھی ان عوام الناس کی کدورتوں کا اثر پڑتا ہے، اور پھر تنہائی کے ذکر و عبادت کے ذریعہ وہ اُس گروغبار کو دھوتے ہیں۔

**فرمایا:** سورہ مزمل میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قیام لیل (تهجد) کا حکم دیتے ہوئے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ”إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا“ (اے رسول! دن میں تم کو بہت چلنا پھرنا رہتا ہے) تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دن کی دوڑ دھوپ اور چلت پھرث کی وجہ سے رات کی اندر ہیری اور تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کی ضرورت تھی، پھر اس آیت سے اُگلی آیت میں جو

متصلًا فرمایا گیا ”وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّتَّلْ إِلَيْهِ تَبَّتِيَّلًا“ (اور اپنے رب کے نام کی یاد کرو اور یکسوئی سے ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو) تو اس سے بھی اس مضمون کی مزید تائید ہوتی ہے کہ تبلیغ دوڑ دھوپ کرنے والوں کو ذکر و فکر اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی خصوصیت سے ضرورت ہوتی ہے، پس ہم کو بھی اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے..... بلکہ ہم اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ اولاً تو ہم خود کچے اور ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، پھر اپنے جن بڑوں سے ہم دینی فیوض اور ہدایات حاصل کرتے ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح غیر معصوم ہیں، اور جن میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں وہ بھی عام انسان ہی ہیں، غرض ہم میں خود بھی کدورتیں ہیں اور ہمارے دونوں جانب بھی بشری کدورتیں ہیں، جن کا ہم پرا شرپڑ نالازمی اور فطری ہے، اس لیے ہم اس کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں کہ رات کے اندر ہیریوں اور تہائیوں میں اللہ کے ذکر و عبادت کا اہتمام اور التزام کریں، قلب پر پڑے ہوئے ہر یہ اثرات کا یہ خاص علاج ہے۔

(ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> ص: ۹۰، ملفوظ نمبر: ۱۱۱)

## تمام تبلیغ والوں کو نصیحت

### زیادہ وقت خلوت اور ذکر فکر میں گزارو

**ارشاد فرمایا:** حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت تہائی میں گزرتا تھا اس واسطے اللہ تعالیٰ کا ذکر مع فکر کے تہائیوں میں زیادہ گزارا کرو۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۲۹)

**تشریح:** رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون مبلغ تھا، آپ رئیس لمبلغین، رئیس المتكلّمین تھے، یعنی تمام تبلیغ اور تمام توکل والوں کے سردار تھے، آپ سے بڑانہ کوئی مبلغ ہوانہ ہو سکتا ہے، مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کے فرمان کے مطابق جب آپ کا حال یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ زیادہ وقت آپ کا تہائی میں گزرتا تھا اور اس خلوت

میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، حق تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی طریقہ رہا۔  
 اسی بات کا حکم حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ اپنے تمام تبلیغ کام کرنے والوں کو دے رہے ہیں کہ دوسروں کی ہدایت و فکر اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور فکر کا اہتمام کرو۔ اور اس میں وقت زیادہ گزارو۔

خود حق تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو اور نبی کے واسطے سے پوری امت اور سارے تبلیغ والوں کو بھی حکم دیا ہے ”وَإِذْ كُرِّ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلَّ إِلَيْهِ تَبَّيَّلًا“، کہ اپنے رب کا ذکر کرو، اور کسی خاص وقت میں مخلوق سے قطع تعلق ہو کر کامل یکسوئی اختیار کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو، خلوت میں ذکر و فکر اور حق تعالیٰ سے مناجات ہر کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے، مولانا الیاس صاحبؒ اپنے تمام کام کرنے والوں کو اسی کی طرف متوجہ فرمائے ہیں۔ (مرتب)

**تمام کام کرنے والوں کو بزرگوں اور مشائخ سے ربط رکھنے اور**

### **خلوتوں میں جا کر ذکر و فکر میں لگنے کی ضرورت**

حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ خود اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

**فرمایا:** مجھے جب بھی میوات جانا ہوتا ہے تو ہمیشہ اہل خیر اور ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں، پھر بھی عمومی اختلاط سے قلب کی حالت اس قدر متغیر ہو جاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعہ اس کو غسل نہ دوں یا چند روز کے لیے ”سہارنپور“ یا ”رانے پور“ کے خاص مجمع اور خاص ماحول میں جا کر نہ رہوں قلب اپنی حالت پر نہیں آتا۔

دوسروں سے بھی کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ ..... دین کے کام کرنے والوں کو چاہئے کہ گشت اور چلت پھرت کے طبعی اثرات کو خلوتوں کے ذکر و فکر کے ذریعہ دھویا کریں۔ (ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحبؒ ص: ۵۷ ملفوظ نمبر: ۸۵)

**فائده:** تمام دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت کی بات ہے کہ لوگوں سے ربط و اختلاط گشت، ملاقات وغیرہ جو اگرچہ خالص دین کے خاطر ہے، لیکن اختلاط یعنی ملنے جانے کی وجہ سے دلوں میں فرق آ جاتا ہے، اس کے لیے تعلیم و تبلیغ کے ساتھ تزکیہ یعنی دل کی صفائی اور قلب کو روشن اور منور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اہل اللہ کی صحبت اور خانقاہوں میں جا کر بزرگوں سے ملاقات اور کچھ وقت ذکر و شغل میں گزارنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ بہت سے اللہ کے مخصوص بندوں کو خلوت میں رہنے سے ہی یہ بات نصیب ہو جاتی ہے۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا ”وَتَبَّلُّ إِلَيْهِ تَبَّیِّلًا“ اور آپ خود بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے، اسی بات کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ اپنے متعلق فرمائے ہیں کہ میں اپنے قلب کی حالت کو درست کرنے کے لیے اہل اللہ و مشائخ کے پاس جانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، تمام تبلیغی و دعویٰ کام کرنے والوں کو بھی حضرت نے اس کی ہدایت فرمائی ہے، اس لیے حسب وسعت اس کا اہتمام سب ہی کو کرنا چاہئے خصوصاً مددار حضرات کو۔

## اہل ذکر و اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو

فرمایا: ”الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعِشَّى“ (آل آیت)

(اس آیت میں) ان لوگوں کا ذکر ہے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی صحبت کی تاکید ہے، اسی طرح جو شام کے وقتوں کو ذکر سے معمور رکھے (ان کی صحبت کی تاکید ہے)۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۹۲)

**تشریح:** ذکر کے مختلف انواع ہیں، قرآن پاک بھی ذکر کی ایک قسم ہے، صوفیاء اور مشائخ جو صبح و شام ذکر کا اہتمام کرتے اور مریدین سے کرتے ہیں وہ بھی اس کا

مصدق ہیں، اس کے علاوہ دوسرے ذاکرین جو مختلف اذکار اور اللہ کی یاد میں صحیح و شام مشغول رہتے ہیں، وہ بھی اس کا مصدق ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے ان سے تعلق رکھنے، ان سے محبت کرنے، دل میں ان کی وقت و عظمت قائم رکھنے، حسب گنجائش ان کی خدمت کرنے، بوقت ضرورت ان کی نصرت و اعانت کرنے کی ہدایت اور ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ صحبت کا حکم ہے اور حقوق صحبت میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، اس لیے اہل قرآن اہل ذکر اہل مدارس اہل خانقاہ علماء اور مشائخ ان سب سے محبت کرنے ان کی صحبت میں رہنے اور ان کی خدمت میں جانے کی حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی خاص ہدایت ہے، جس کی دلیل میں حضرتؐ نے قرآن پاک کی آیت بھی پیش فرمائی ہے جو اور پر مذکور ہوئی۔

## بڑوں سے ربط رکھنے کی ضرورت

بڑے اور جھوٹوں کا کنشن جب تک نہ ملے گا اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی،  
اصل کمائی یہ ہے۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۵۰)

**تشریح:** بڑوں سے مراد ہے دینی بزرگی رکھنے والے یعنی علماء و مشائخ اور بزرگان دین، اہل مدارس، اہل خانقاہ۔

حضرتؐ کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ جب تک جھوٹوں یعنی عوام الناس خواہ وہ کسی طبق سے تعلق رکھتے ہوں جب تک ان کا کنشن اور ان کا تعلق اپنے بڑوں یعنی علماء و مشائخ سے نہ ہوگا اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی، کام کی ترقی کا راز ہی یہی ہے کہ سب سے آپس میں ربط ہو، اور ربط رکھنے کے ساتھ اپنے اپنے کام میں لگے رہیں تب جا کر دین کی ترقی ہوگی، یہی ہماری اصل کمائی ہے، اس کے بغیر جو ترقی ہوگی اس میں اختلاف و انتشار اور فساد ہوگا، اس لیے باہم ربط کی آج کل شدید ضرورت ہے۔

## اپنے بڑوں سے یعنی علماء سے دین لو اور ان کو اپنا محسن سمجھو ان کی تعظیم و تو قیر کرو

ارشاد فرمایا: بھائیو! لوگوں سے دین پر عمل کرنے کے لیے پہلے ان میں حقیقی ایمان، آخرت کی فکر اور دین کی قدر پیدا کرو، اللہ کی دہش بہت ہے مگر اس کے یہاں غیرت بھی ہے، وہ ناقدوں کو نہیں دیتا — تم بھی اپنے بڑوں سے دین کو قدر کے ساتھ لو — اور اس قدر کا مقتضی یہ بھی ہے کہ ان کو اپنا بہت بڑا محسن سمجھو اور پوری طرح ان کی تعظیم و تو قیر کرو، یہی منشاء ہے اس حدیث کا جس میں فرمایا گیا ہے۔

”مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ“ (ومثله في الترمذى عن أبي هريرة - ۲/۱۷) جس نے اپنے محسن آدمیوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ (ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۱۱۹-۱۳۲)

## اہل اللہ کی محبت اور ان کی صحبت سے ایمان مضبوط ہوگا

بزرگوں کی صحبت بڑی چیز ہے، اولیاء اللہ کی نظردواہ ہے، کلام شفاء ہے، اور صحبت سراپا نور ہے۔

علم، عمل، صحبت، تیوں کے بغیر دین حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرمایا: اہل اللہ کی محبت اور ان کی صحبت سے، ان کی خدمت کرنے سے آنکھ ہوگی جو یومنُون بالغَيْب (ایمان بالغیب) کو بڑھائے گی، جو نفسانی اغراض سے پاک ہوگی۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۹۹-۱۰۰-۱۰۲)

**تشریح:** بزرگوں اور اللہ والوں کی صحبت ایسی بڑی نعمت ہے کہ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، ”إِتَّقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ“ حضرت مولانا

محمد الیاس صاحبؒ کے فرمان کے مطابق کامل دین حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تین باتیں نہ پائی جائیں، علم و عمل اور اہل اللہ کی صحبت، علم سے مراد بقدر ضرورت علم دین جو فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، اور اسی علم کے مطابق عمل ہونا بھی ضرروی ہے، اور ساتھ ہی علم و عمل میں پختگی اور رسوخ کے لیے نیز باطنی کیفیت کو درست کرنے کے لیے علماء و مشائخ کی صحبت بھی ضروری ہے، شیطان جو گمراہ اور راندہ درگاہ ہوا ہے اس کی وجہ بعض علماء نے یہی لکھی ہے کہ علم و عمل تو اس کے پاس تھا لیکن تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی باطنی کیفیت درست نہ تھی اور دل میں عشق و محبت کی کمی تھی، اہل اللہ کی محبت و صحبت اور ان کی خدمت سے ایمان میں بھی پختگی ہو گی جو کہ عین مطلوب ہے اور یہ اوصاف بھی حاصل ہوں گے جو اوپر مذکور ہوئے۔ اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے اپنے تبلیغی حضرات کو اہل اللہ کی صحبت اور ان کی خدمت کی تلقین فرمائی ہے۔

## شیطان کے جال سے بچنا ہے تو بزرگوں کی ماتحتی اختیار کیجئے

**فرمایا:** جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے علاوہ چلے گا وہ شیطان کے پنج میں ہے، اس واسطے جس شخص کی زندگی کسی بزرگ کی ماتحتی میں نہیں ہے وہ شیطان سے بچ نہیں سکتا۔ (کیونکہ علماء و مشائخ اور بزرگان دین نبی کے وارث اور جانشین ہیں)۔

(ارشادات و مکتوبات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب (حص: ۸۱)

## اولیاء و مشائخ کے پاس اللہ واسطے جانادین کا لُبِّ لُبَاب ہے

**ادشاد فرمایا:** اولیاء اللہ کے پاس جاناغدا کے واسطے لُبِّ لُبَاب دین ہے۔ اس سے علم کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ (ارشادات و مکتوبات حص: ۵۲)

**فائده:** اس ارشاد میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے تمام حضرات کو

حضرات مشائخ سے ربط رکھنے، ان کی خدمت میں حاضری دینے اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ دین کا لُبْ لَبَاب یعنی کمال دین ان بزرگوں اور مشائخ کی صحبت سے ہی حاصل ہوگا۔ جس کا حکم حق تعالیٰ نے دیا ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ“۔ (پ: ۱۱، یونس)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، تقویٰ والی زندگی اختیار کرو، اور صادقین یعنی اہل اللہ کی معیت اور ان کی صحبت اختیار کرو، چنانچہ صحابہ کرام بڑی تعداد میں وقتاً فوت قار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفر کر کے بھی حاضر ہوتے تھے، کچھ دن قیام کرتے اور آپ کی صحبت سے مستفید ہوتے، حدیثوں میں اس کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ بزرگوں کی صحبت سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کو بزرگوں کی نیک صحبت حاصل ہو وہ شخص فتنہ ارتاداد سے محفوظ رہتا ہے، اس کے قلب میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اور دین کی محبت غالب ہو جاتی ہے، باطنی عیوب و امراض کی طرف توجہ ہوتی ہے اور اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اور شیخ سے اپنے حالات بیان کر کے علاج کی توفیق ہو جاتی ہے، صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے، اس طرح اس کی عملی زندگی درست ہو جاتی ہے، اور علم و فہم کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ بشرطیکہ صحبت کامل کی ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔

## تصوف و خانقاہ اور مشائخ کی ضرورت کیوں؟

اہل طریقت نے (یعنی صوفیا اور مشائخ نے کتب تصوف میں) رذائل کو جمع کیا ہے ان سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے کام میں لگے۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۱۶)

**فائده:** دین کے اہم شعبوں (عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق) میں سے اہم شعبہ اخلاقیات کا ہے جس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی، اخلاق

ظاہرہ و باطنہ دونوں کے متعلق شرعی احکام ہیں، اخلاق ظاہرہ تو بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں لیکن اخلاق باطنہ کی طرف لوگوں کو بلکہ بہت سے دینداروں کو بھی توجہ نہیں ہوتی بلکہ اس کا علم بھی نہیں ہوتا، مثلاً دل میں اللہ کی محبت کا غالب ہونا، قلب کا ناجائز محبت سے خالی ہونا، کینہ، بغض، حسد، دل میں نہ ہونا، دل سے کسی کو حقیر نہ جاننا، تکبر نہ کرنا، تواضع اختیار کرنا، دل میں عشق و فتنہ اور گندے خیالات نہ لانا، نامحرم عورتوں کا تصور نہ کرنا، گندی برہنہ تصویریوں کو دیکھ کر ان سے لذت یاب نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، انہیں باطنی عیوب و امراض کو رذائل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے بھی رذائل سے انہیں امور کو مراد لیا ہے، اور یہ باطنی عیوب و رذائل وہ گناہ بکیرہ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کافرمان ہے ”وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأُشْمِ وَبَاطِنَه“ (پ ۸) کہ ظاہری و باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دو، باطنی گناہوں سے مراد یہی رذائل ہیں، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے رذائل اور باطنی عیوب بیان کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا اعلان ارشاد فرماتے تھے، کسی نے کہا مجھے عورتیں اچھی لگتی ہیں، زنا کرنے کو جی چاہتا ہے، کسی نے کہا میرا دل سخت ہے کسی نے غصہ کی زیادتی کی، اور کسی نے طرح طرح کے گندے خیالات اور وساوس کی شکایت کی آپ نے سب کا اعلان اور تدبیر میں بتائیں۔ یہ کام بھی نبیوں والا ہے، جس کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا اسی کا نام تذکیرہ ہے، اسی کو تصوف سے تعبیر کرتے ہیں، اسی کام کے لیے خانقاہیں قائم ہیں، اور مشائخ دین و صوفیاء نبیوں والے اسی کام کو انجام دیتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ باطن کو آراستہ کرنا یعنی قلب کی اصلاح کرنا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر دل کی اصلاح نہیں ہوئی اور دل بگڑا ہوا ہے تو پورا جسم بگڑ جائے گا، گو ظاہر وہ کتنے ہی دینی کاموں میں لگا ہوا ہو، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اپنے تمام تبلیغی اجتہاب کو متنبہ فرمائے ہیں کہ اپنے دعویٰ تبلیغ کام میں لگنا ہے، کام کرنا ہے، لیکن اپنے کو رذائل سے اور باطنی عیوب سے حفاظت کرتے ہوئے، اس موضوع پر جو کتابیں لکھیں ہیں، جن میں باطنی عیوب اور ان کے علاج لکھے ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ صوفیاء و

مشائخ جن کو حضرت مولانا محمد الیاسؒ نے اہل طریقت فرمایا ہے ان سے ربط رکھیں، اصلاحی تعلق قائم کریں، اپنے باطنی عیوب و امراض کو ان سے بیان کر کے ان کی ہدایتوں پر عمل کریں، یہ ہدایت ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی۔

## اصحاب دعوت و تبلیغ کے نام مختلف شخصیتوں اور ہدایتوں پر

### مشتمل حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا اہم مکتوب

محترمانہ دین داران میوات ثبت اللہ قلوبنا علی الدین وأللهمنا اللہ

الرشد والإيمان واليقين                          السلام عليکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

میرے دوستو! ایک نہایت لطیف ضروری جو دینی اور ایمانی ترقیات کی باریکی سی جڑ ہے، اس پر متنبہ کرنے کی نیت سے اس تحریر کا ارادہ ہے، خدا کرے اس کے فضل و کرم و رحمت سے موجب برکت ہو، آمین، مجھ سے ادائیگی بھی ہو جائے اور قلوب میں قبولیت بھی ہو، اور اس کے مناسب زندگی پڑنے کی خدائے پاک سے توفیق نصیب ہو، اور پھر دین کی جڑوں کی سیرابی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اس پر مرتب ہو، اللہم آمین ثم آمین۔

(اب آگے مکتوب ملاحظہ ہو، عنوانات اور سرخیاں مرتب کی قائم کر دہ ہیں)

### تبلیغی کام کے ذریعہ تمام دینی اداروں اور شعبوں کو مستحکم و

#### مضبوط کرنا ضروری ہے

میرے دوستو! یہ تبلیغ کے اندر صحیح اصول کے ساتھ کوشش کرنا جو ہے اس کو خوب غور کر کے سمجھ لو کہ یہ کیا چیز ہے، خوب سمجھ لو اور خوب سمجھ لو کہ یہ دین کے ادارے اور جتنے بھی ضرورت کے امور ہیں، ان سب دینی امور کے لیے تبلیغی صحیح اصول کے ساتھ ملک بہ ملک پھرتے ہوئے کوشش کرنا، باقی سب امور کے لیے بمنزلہ زمین ہموار کرنے کے ہے، اور

بمنزلہ بارش کے ہے، اور دیگر جتنے بھی امور ہیں وہ اس زمین مذہب کے اوپر بمنزلہ باغات کے پروش کرنے کے ہیں، باغات کے ہزاروں اقسام ہیں، کوئی کھجوروں کا ہے، کوئی اناروں کا ہے، کوئی سیبوں کا ہے، کسی میں کیلئے ہیں اور کوئی چھلواریوں کا باغ ہے، باغ ہزاروں چیزوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی باغ دو چیزوں کے اندر پوری پوری کوشش کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، پہلی چیز زمین کا ہموار اور درست ہونا ہے، زمین کے ہموار کرنے میں کوشش کے بغیر یا زمین میں کوشش کر کے خود ان باغات میں مستقل پروش کئے بغیر سب قسم کے باغات پروش نہیں پاسکتے، سو دین میں تبلیغی امور کی کوشش یہ تو زمین مذہب ہے اور سب ادارے باغ ہیں، اب تک زمین مذہب ایسی ناہموار اور ہر طرح کی پیداوار اور باغات سے اس قدر نامناسب ہو رہی ہے، کہ کوئی باغ اس زمین پر لگ نہیں سکتا، یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں وہ زمین کی خرابی کی وجہ سے سب خراب اور بر باد ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور زیادہ تر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ابتلاء و آزمائش کے لیے ہمارا دشمن جو نفس اور شیطان مقرر کیا ہوا ہے وہ ہمارے ارادوں، ہماری نیتوں اور ہمارے عملوں پر کچھ ایسا پورا پنج گڑا کرقابو پائے ہوئے ہے کہ وہ ہمارے سب کاموں سے دین کے بگاڑ کا کام زیادہ لیتا ہے، ہم باغات کے سر سبز ہونے کے نشہ میں ایسے بے خبر ہوتے ہیں کہ نیچے کی جڑوں اور زمین کے بر باد ہونے کی خربھی نہیں رکھتے، اگر دونوں چیزوں کے اندر اپنی کوشش کو ہمت اور استقلال کے ساتھ جاری نہ رکھو گے تو نہ زمین ہی درست ہو گی نہ باغات ہی سر سبز ہوں گے۔

## مدرسوں کے قیام کی تاکید اور مدرسوں کے لیے چندہ کی اپیل

اس وقت میرا مقصد مدرس نوح کے لیے غلہ کی ضرورت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اس وقت موقع دو چیزوں کا ہے، یعنی ایک زمین مذہب کی ہمواری کے لیے لوگوں کو باہر نکالنا، اور چمن مدارس کے لیے غلہ کی فراہمی کرنا، اگر اس چمن کی جو تمہارے یہاں پہلے

سے قائم ہے (یعنی مدرسہ) اسے تم سر بزرنہ کر سکو گے، اور غالباً رہو گے تو پھر تمہارے اندر دیگر مدارس کے پیدا کرنے کی قوتیں کہاں سے پیدا ہوں گی، اور یہیں سے ایک ضروری بات کہنی ہے اور یہی ہے اصل اس خط کا مغز کہ ایمان کی جو جڑ ہے اور ایمان کے صحیح راستہ پر اس وقت تک نہیں پڑ سکتا جب تک منافقانہ چال کا اپنے اندر ڈرنہ ہو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ یوں سمجھئے کہ یہ دینی کام جو کہ میں کر رہا ہوں میرے سے شیطان کراہا ہے، میں بھلا ایسا کہاں تھا کہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتا، اور اپنے نفس کے نفاق کے دلائل ڈھونڈھنے میں لگا رہے، اور تنہائیوں میں نفس کو قائل کرتا رہے کہ تو جھوٹا ہے چنانچہ آپ کے ملک میں اب تک مدارس کے شوق ہی کی مثال کو لے لیجئے۔

## مدارس کے ترقی کی کوشش نہ کرنا اخلاص کی کمی کی علامت ہے

میرے نزدیک مدارس کا شوق خلوص اور اللہ کے واسطے نہیں تھا، بلکہ شیطان ہماری گردنوں پر سوار ہو کر باہمی جنگ کا حیلہ ڈھونڈ رہا تھا، تاکہ مدارس کے حیلہ سے مسلمانوں میں باہمی جنگ اور فتنہ و فساد کرنے کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کو بر باد کرے، کیونکہ اب تک تبلیغ کی برکت سے اس کا یہ داؤ چلا، اس لیے تم سے وہ گرجو اس بات پر تمہیں آمادہ کرے تھا اس نے چھوڑ دیا، اور یہ رضائے الہی کے واسطے سرے ہی سے نہ تھا لہذا مدارس کا فروع رُک گیا، اگر مدارس کی کوشش رضائے الہی کے لیے ہوتی تو مجھے بتلادیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس سال غلہ کی فراوانی بھی بہت ہے اور لوگوں کا شوق بھی پیدا ہو چکا ہے، لوگوں کے دین کا شوق ہونے اور غلہ کی فراوانی ہونے کے باوجود غلہ کی وصولی اتنی بھی نہیں جتنا قحط اور دین سے جہالت کے زمانہ میں تھی، میرے نزدیک اگر رضائے الہی کے لیے ہوتا تواب سینکڑوں مدارس ہوتے، اس وقت دیندار لوگوں کا اس میں کوشش نہ کرنا صاف بتلارہا ہے کہ ہمارا دشمن فتنہ و فساد پر ابھار رہا تھا۔ اس کو اپنی اغراض نظر نہ آئیں۔ لہذا اس نے چھوڑ دیا، رضوان الہی کی اتنی طلب ہی نہیں کہ خالص اس کے واسطے جان توڑ کوشش ہو جائے۔

## مدرسہ و مکتب کی ترقی اور چندہ کے لیے خوب کوشش کرنے کی ضرورت

### کوئی مسجد دینی مکتب و مدرسہ سے خالی نہ ہونا چاہئے

میرا مقصد محض الزام نہیں ہے بلکہ ایک طرف متوجہ ہو کر اطمینان کے ساتھ ذکر کی تکشیر اور نمازیں پڑھ پڑھ کر پھر از سر نو پر زور کوشش کی ہمتیں کریں، اور ان دونوں باتوں میں پوری سعی کریں کہ آدمی بھی کثرت سے نکلیں، تا کہ زمین تیار ہو، اور مکتب کی کثرت ہو، اور وہ روش زندگی کی ہو کہ ہر مسلمان کی مسجد و ہاں کے بچوں کے مکتب کی صورت ہو، اپنے دشمن کی گھات سے ہوشیار ہو، اور حنفی تعالیٰ جل جلالہ کی حصول رضا میں جان دے دینے کے رواج میں پوری کوشش کرو۔ فقط والسلام، بندہ محمد الیاس عفی عنہ، بقلم بشیر احمد فوٹ: اس خط کی نقیل میں مختلف احباب کی طرف روانہ فرمادیں۔

(مکاتیب مولانا محمد الیاس صاحب عص: ۱۲۶)

### چند تنبیہات پر مشتمل حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا اہم مکتوب

محترمان حضرات میاں صاحبان دامت فیوضکم و ثبت اللہ علی الدین  
اقدامکم و شرح للاسلام صدور کم السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ  
میرے دوستو! اللہ تمہاری ہمتیوں کو بلند فرمائے، اور تمہارے ہاتھوں ہی اپنے دین کو منصور اور مظفر اور پائدار آبدار اور چمکتا ہو اور تروتازہ فرمائے، اس موضع "دنی" کے جلسے میں نہایت ضعف و سُستی رہی اور آپ صاحبوں کی ہمت اور قوتوں سے جمع تو بہت بڑے بڑے لوگ ہوئے، لیکن میری کوتاہ نظر میں اتنی باتوں کی کمی رہی۔

(۱) اپنے یہاں کے اصلی مقاصد کے چھ نمبروں میں سے ایک بھی خاطر خواہ نہیں بیان کیا گیا۔ صرف اجمالاً باہر نکالنے کو کہا گیا، حالانکہ چاہئے تھا کہ اپنے تمام نمبروں کو مع اس کے اندر کی فضیتوں اور اس کی برکات اس کے اثرات اور ان پر جنمے کے ذریعہ تمام

دین میں سمجھ کے پیدا ہونے اور جڑوں کے جمنے اور مسلمانوں کے پہلوؤں کو سر بزركرنے میں پوری کوشش کرنی چاہئے تھی۔

ہر ہر نمبر کی الگ الگ یہ سب باتیں تفصیل وارد ہن نہیں کرنے میں پوری کوشش کرنی چاہئے تھی اور اس کے بخلاف ایک نمبر کی بھی کوئی خوبی نہیں بیان کی گئی۔

(۲) سب ذیل داروں اور سر برآ وردہ لوگوں کو ہر موضع کے دیندار علماء اور میاں جی لوگوں کے ساتھ الگ الگ جماعتیں کر کے ہر ایک جماعت سے الگ الگ ”ہاں“ کرانی چاہئے تھی اور اس میں کوشش کا اقرار کرنا چاہئے تھا۔

(۳) ان سب جماعتوں سے اقرار کرانے کے بعد ہر ایک جگہ کے واسطے ان کو عمل میں مصروف کرنے کے لیے اپنے پرانے لوگوں کو تقسیم کر کے عمل میں اور گشت میں مصروف کر دینا چاہئے تھا۔

(۴) ہر ہر قوم کی الگ الگ جماعت بنانے کی میں بہت دن سے تاکید کر رہا ہوں اس جلسہ میں ضروری تھا کہ موضع ”نئے“ سے ہر ہر قوم سے مستقل جماعت نکالنے کی پوری کوشش کرنے کے لیے ایک جماعت دو چار دن کے لیے مقیم کر کے آنا تھا، جو ہر قوم سے الگ الگ جماعت نکال کر آتی۔

## صرف تعلیم اور مدرسہ کی ترقی کے لیے مستقل جلسہ کرنے کی ضرورت

(۵) صرف تعلیم کے لیے ایک جلسہ کی ضرورت تھی، جس میں تمام مدرسین اور مبلغین جمع ہو کر محض تعلیم والے نمبر کے پہلوؤں پر غور کر کے تعلیم کے فروغ میں پورا زور دیا جائے، اس جلسہ کی کوئی تاریخ مقرر کر دینی چاہئے تھی، یہ بھی نہ ہوسکا۔

(۶) یوپی میں جماعتیں بھیجنے کے لیے ہر طبقہ سے الگ الگ اقرار کرایا جاتا یہ بھی نہ ہوسکا، ”انا لله وانا الیه راجعون“ یہ میں نے اس واسطے تحریر کیا ہے کہ اس جلسہ میں ان ناکامیوں کی وجہ سے ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ واستغفار کی کوشش

کریں، اور آئندہ جلسوں میں ان سب نمبروں میں ہمت اور پابندی اور بیدار مغزی کے ساتھ کوشش کرنے کی اللہ جل جلالہ سے کوشش کرتے رہا کریں۔ فقط والسلام  
محمد الیاس عفی عنہ (مکاتیب مولانا محمد الیاس صاحب بحص: ۱۳۱)

## طبقاتی جوڑ کی اہمیت

**فائده:** حضرت<sup>ؐ</sup> کے مذکورہ بالا فرمان نمبر ۲، اور ۷ سے طبقاتی جوڑ کی ضرورت و اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس کا مدار اصلاح حالات و ضرورت پر ہے، ضرورت کی بنا پر ہی آپ نے ہر ہر قوم کی الگ الگ جماعت بنانے کی ہدایت اور تاکید فرمائی ہے، جب حالات ایسے باقی نہ ہیں تو اس کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی، شریعت نے ضرورت و حالات کی بنا پر ہم کو اختیار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے بھی بعض موقعوں پر ضرورت و حالات کے پیش نظر طبقاتی جوڑ کا اہتمام فرمایا ہے۔

مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مدکے کے بعد تقسیم غنائم کے وقت خاص ضرورت کے تحت صرف انصار صحابہ کو جمع فرمایا، اور یہ اہتمام فرمایا کہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو۔ ”جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانصار فقال أفيكم أحدٌ من غيركم؟ قالوا: لا“۔ اخ (مسلم شریف: ۳۳۸/۱)

حضرت ابو موسی اشعری<sup>ؓ</sup> نے ایک مرتبہ بصرہ کے صرف قراء و علماء کو دعوت دے کر ان کا جوڑ فرمایا چنانچہ ان کی دعوت پر ۳۰۰ قراء کا جوڑ ہوا، بعثت أبو موسی الاشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة، اخ (مسلم: ۳۳۵، باب کراہیۃ الحرص علی الدنیا)

حضرت عمر فاروق<sup>ؓ</sup> نے طاعون کے مسئلہ میں کہ جس جگہ طاعون پھیلا ہوا ہو وہاں سفر کر کے جانا چاہئے یا نہیں، طبقاتی اعتبار سے اولاً مہا جر صحابہ پھر انصار صحابہ سے پھر مشائخ قریش سے علیحدہ علیحدہ مشورہ فرمایا۔ (بخاری شریف: ۸۵۳/۲، مسلم: ۲۲۹، موطا: ۳۶۱)

قال ابن عباس: ... فقال عمرادع لى المهاجرين الاولين فدعوتهم فاستشارهم.... ثم قال ادع لى الانصار..... فقال ارتفعوا عنى ثم قال ادع لى من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. (مسلم: ٢٢٩/٢)

دوسری حدیثوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”أنزلوا الناس منازلهم“۔ (ابو داؤد کتاب الأدب، باب فی تنزیل الناس منازلهم ٢٥/٢)

عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلی الله علیہ وسلم أن ننزل الناس منازلهم. (مسلم شریف ٣/١)

حضرت امام بخاریؓ نے ایک باب منعقد کیا ہے جس کی بنیاد ہی طبقاتی تقسیم پر ہے اور جس سے طبقاتی تقسیم کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے ”باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا“ اور اس کے تحت حضرت علیؑ کا اثر نقل کیا ہے ”حدثوا الناس بما يعرفون أتحبّون أن يكذب الله ورسوله“ (بخاری ٢٢٦)

اس کی شرح میں علامہ عینیؒ فرماتے ہیں اُی کلموا الناس بما يعرفون اُی بما يفهمون ، والمراد كِلَمُوهُمْ عَلَى قَدْرِ عِقْوَلِهِمْ. (عدمة القاري شرح بخاری ص: ٢٠٥/٢)

وعن علیؓ قال: كِلَمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عِقْوَلِهِمْ أَتَحِبُّونَ أَنْ يَكْذِبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. (الترضی مصنفہ مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ ص: ٢٨٩)

عن عبد الله بن مسعودؓ قال: ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنۃ. (مسلم شریف ص: ٩)

سب کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں سے ان کے رتبہ کے مطابق معاملہ رکھو، لوگوں کی عقل و فہم کے مطابق ہی ان سے گفتگو کرو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ و رسول کی تکذیب کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ان حکیمانہ ارشادات ہی سے طبقاتی جوڑ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کے حالات، طبائع اور صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، جس کا تقاضا بے شک یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے طبقہ وار جماعت کا

جوڑ باقی رکھا جائے، اور جس انداز اور جس سطح کی گفتگو جس طبقہ کے مناسب ہوا سی انداز کی اس طبقہ سے گفتگو کی جائے، یہی عقل سلیم اور فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہے، انہیں سب مصالح کی بنی پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> نے طبقہ وار جماعت کی ہدایت فرمائی ہے، اس کو غلط اور خلاف شرع کہنا صحیح نہیں۔

رہ گیا رؤساء مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبا کہ جب ہم کو تعلیم و تبلیغ کی جائے اس وقت کم درجہ کے صحابہ شریک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور کفار مکہ کی اس خواہش کو رد کر دیا گیا، اس واقعہ کا اس طبقاتی جوڑ سے (جو مذکورہ بالامصالح کی بنی پر ہواس سے) کوئی تعلق نہیں، رؤسائے مکہ تو تعنت اور شرارت کی بنی پر صحابہ کو حقیر سمجھنے کے ساتھ ایسی فرمائش کرتے تھے جو کسی مصلحت پر مبنی نہ تھی بلکہ تکبر اور شرارت پر مبنی تھی، اس لیے اس کو رد کر دیا گیا، دونوں میں زین و آسان کافرق ہے۔ واللہ اعلم۔

## تبلیغی کارکنوں اور ایک سال لگانے والوں کے لیے

### پندرہ ہدایتوں مشتمل مولانا محمد الیاس صاحب<sup>ؒ</sup> کا اہم مکتوب

میرے دوستو! اور عزیزو! تمہارے ایک ایک سال دینے کی خبر سے جواب ہی سے مسرت ہو رہی ہے وہ تحریر سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمادیں، اور توفیق مزید عطا فرمادیں، میں چند باتوں کی طرف آپ صاحبان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔

### ذکر بارہ تسبیحات، بیعت اور خانقاہ سے متعلق چند ہدایتیں

(۱) اپنے اپنے علاقے کے ان لوگوں کی فہرست جمع کر کے مجھے اور شیخ الحدیث (حضرت مولانا محمد زکریا صاحب<sup>ؒ</sup>) صاحب کو لکھیں کہ جو ذکر شروع کر چکے ہیں یا اب کر رہے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں؟

(۲) دوسرے جو بیعت ہیں اور ان کو بیعت کے بعد جو بتلا یا جاتا ہے اس کو نباه

رہے ہیں یا نہیں۔

(۳) ہر مرکز میں جو مکاتب ہیں، ان کی نگرانی اور جدید مکاتب کی جہاں جہاں ضرورت ہو۔

(۴) تم خود بھی ذکرا اور تعلیم میں مشغول ہو یا نہیں؟ اگر نہیں ہو تو بہت جلد اب تک کی غفلت پر نادم ہو کر شروع کر دو۔

(۵) نمبر اول سے مراد یہ ہے کہ جن کو بارہ تسبیح بتائی ہیں، وہ پابندی سے پورا کرتے ہیں یا نہیں، اور انہوں نے ہم سے پوچھ کر کیا ہے، یا خود اپنی تجویز سے ذکر کرنے والوں کو دیکھ کر شروع کر دیا ہے، ہر شخص سے دریافت کر کے نمبروار تفصیل لکھو۔

(۶) اپنے مرکزوں سے ہر ہر نمبر کے متعلق نمبروار تفصیل کے ساتھ کارگزاری میرے اور شیخ الحدیث صاحب کے پاس روانہ کرنے کا اہتمام ہو۔

(۷) جو ذکر بارہ تسبیح کر رہے ہیں ان کو آمادہ کرو کہ وہ ایک ایک چلہ رائے پور (خانقاہ میں حضرت مولانا عبدال قادر صاحب خلیفہ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری کی خدمت میں) جا کر گزاریں۔

## حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے لیے ایصال ثواب اور ان کی

### کتابوں کے مطالعہ سے متعلق ہدایت

(۸) حضرت تھانویؒ کے لیے ایصال ثواب کا بہت اہتمام کیا جاوے، ہر طرح کی خیر سے ان کو ثواب پہنچایا جائے، کثرت سے قرآن شریف ختم کرائے جاویں، یہ ضروری نہیں کہ سب اکٹھے ہو کر ہی پڑھیں، بلکہ ہر شخص کا تھائی میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، تبلیغ میں نکلنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اس لیے اس صورت سے زیادہ پہنچاؤ۔

(۹) حضرت تھانویؒ سے منشیع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی محبت ہو اور

ان کے آدمیوں سے اور ان کی کتابوں کے مطالعہ سے منتفع ہوا جائے، ان کی کتابوں کے مطالعہ سے علم آئے گا، اور ان کے آدمیوں سے عمل۔ اس وقت یہ چند ضروری باتیں عرض کر دیں، آئندہ تمہاری کارگزاری آنے پر جو چیزیں بندہ کے نزدیک ضروری ہوں گی ان شاء اللہ عرض کرتا رہوں گا۔

## تبلیغ میں نکلنے کا مقصد تین چیزوں کو زندہ کرنا ہے، ذکر، تعلیم، تبلیغ

- (۱۰) میرے دوستو! تمہارے نکلنے کا خلاصہ تین چیزوں کا زندہ کرنا ہے، ذکر، تعلیم، تبلیغ۔ یعنی تبلیغ کے لیے باہر نکالنا اور ان کو ذکر و تعلیم کا پابند کریں۔
- (۱۱) پرانے آدمیوں کو خصوصاً جو میرے بھائی کے ملنے والے ہیں، ان کو اہتمام سے اس کام میں اپنے ساتھ لگانے میں خصوصی کوشش کریں۔
- (۱۲) اپنے اوقات کی قدر کریں اور لا یعنی سے خود بھی بچیں، اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دیں، تمہارا عمل دوسروں کے لیے نمونہ ہو گا۔
- (۱۳) شیطان کی کامیابی دو چیزوں میں لگادینا ہے اول لا یعنی دوسرے اپنی راحت و آرام کے فکر میں پڑ جانا۔
- (۱۴) اپنی کارگزاری کے ساتھ شیخ الحدیث صاحب کو اس کا شکر یہ بھی لکھو کہ تمہارا گھروں سے مکارہ کو برداشت کرتے ہوئے نکنا محض آپ کی توجہ ہی کی برکت سے ہوا ہے۔ ہمارے تغافل سے جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس کی معافی کے خواستگار ہیں۔ ”ولکن لا تحبون الناصحین“۔ سے نہ بنیں، بلکہ اپنے ناصحین کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے والوں سے بنیں۔

- (۱۵) سب سے زیادہ ضروری ان غلطیوں پر ندامت جس قدر بھی زیادہ ہو گی اس کے بقدر تم ”ان الله يحب التوابين“ کے ماتحت اس کے محبوب ہو جاؤ گے، اور آخر شبوں اور فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کا بہت زیادہ اس کام کے فروع

کے لیے اہتمام کیا جائے، دعاء تمہاری تمام عبادتوں کا مغز ہے، اس کے فروغ کے لیے  
یلیسین شریف کا ختم وغیرہ کرا کر اہتمام سے دعا منگواتے رہو۔

(مکاتیب مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۹- جمع کردہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی)

## ہماری تبلیغ شریعت، طریقت، حقیقت تینوں کی جامع ہے

ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:

بندہ ناچیز کے نزدیک یہ تبلیغ شریعت، طریقت، حقیقت تینوں کو علی الاتم جامع ہے،  
سو جس نازک زمانہ میں کسی چیز کا ایک تہائی بھی دشوار تر ہو رہا ہو وہ بغیر تعلیم اور بغیر سیکھے  
اپنے تنگنے کے ساتھ خضم ہو کر کیسے کیا جا سکتا ہے۔

(مکاتیب مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۲۶)

**فائده:** شریعت سے مراد احکام ظاہرہ اور طریقت سے مراد احکام باطنہ ہیں،  
جس کو احکام تصوف و تزکیہ بھی کہتے ہیں، اور ”حقیقت“ تزکیہ و تصوف کے اعلیٰ مقام کو کہتے  
ہیں، جس میں احکام ظاہرہ و باطنہ اپنی پوری حقیقت اور کامل اخلاص اور حضور قلبی کے ساتھ  
ادا کئے جائیں، جس کو حدیث پاک میں ان تعبد اللہ کا نک تراہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔  
یہ حقیقت ہے کہ ”دعوت و تبلیغ“ کا کام اگر اسی نجح سے کیا جائے اور ان ہی  
ہدایات کے مطابق پورے طور پر اس کام کو انجام دیا جائے جس کی مولانا محمد الیاس  
صاحب نے ہدایتیں دی ہیں، تو بلاشبہ یہ تبلیغ شریعت و طریقت اور حقیقت سب کو جامع  
ہے، اس کام میں لگنے سے باطن کی اصلاح بھی ہوگی، نسبت یادداشت اور تعلق مع اللہ کی  
دولت بھی نصیب ہوگی، لیکن شرط یہی ہے کہ حضرت مولانا کی جملہ ہدایات و آداب کی  
رعایت اور پابندی کے ساتھ ہو، جس کی تفصیل اسی کتاب میں مذکور ہے، مثلاً مولانا کی  
اس ہدایت کے مطابق عمل بھی ہو کہ تبلیغی احباب علمائے کرام اور مشائخ سے ربط رکھیں،

وقتاً فو قتاً خانقاہ میں کچھ وقت گزاریں مشائخ سے پوچھ کر ذکر کی پابندی کریں، علماء سے ربط رکھ کر ضروری باتوں کا علم حاصل کریں، قراءے سے ربط رکھ کر قرآن پاک صحیح کریں، وغیرہ ذلک۔ تو بلاشبہ یہ تبلیغ شریعت و طریقت اور حقیقت سب کو جامع ہو گی۔ (مرتب)

## ”تبلیغ“، شریعت، طریقت حقیقت تینوں کو جامع ہے

ایک مکتوب میں تحریر فرمایا: بندہ ناچیز کے نزدیک یہ ”تبلیغ“، شریعت، طریقت، حقیقت، تینوں کو علی الاتم (پورے طور پر) جامع ہے۔ (مکاتیب مولانا شاہ محمد الیاس صاحب ص: ۲۶)

”طریقت“، تین چیزوں کے مجموعوں کا ایک نسخہ ہے، سب اقصار کے ساتھ ہم وزن رہیں (یعنی تینوں چیزوں اعتدال کے ساتھ رہیں) تو مفید پڑتا ہے، ورنہ لقصان دہ ہوتا ہے۔ وہ تین چیزوں ایک صحبت ہے جب کہ من اپنے آداب اور عظمت وغیرہ کے ہو، دوسرے اپنے نفس کے حقوق جب کہ حظوظ سے محفوظ ہوں اور اللہ کے حکم کے ماتحت نگہداشت ہو، تیسرا ذکر کے سب معمولات جب کہ استقلال اور بیداری اور خالص اللہ کی رضا کے لیے نفس کو مشقتوں میں ڈالنے کی نیت سے ہوں۔ (حوالہ مذکور ص: ۸۶)

**تشریح:** دین و شریعت کے بہت سے شعبے ہیں، شریعت و طریقت اور حقیقت سب دین ہی کے شعبے ہیں، دعوت و تبلیغ میں لگنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقی شعبوں سے صرف نظر کر لے اور ان میں حصہ لینے کی کوشش نہ کرے، حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری تبلیغ سب کو جامع ہے، شریعت و طریقت اور حقیقت سب کو سمیٹنے ہوئے ہے، ابتدائی مرحلہ میں شریعت و طریقت اور حقیقت سب کا کچھ کچھ حصہ نصیب ہوتا ہے یعنی تبلیغ کے ذریعہ سب سے تھوڑی تھوڑی مناسبت ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد ضرورت پیش آتی ہے کہ شریعت و طریقت کے ماہرین یعنی علماء و مشائخ سے ربط رکھ کر آگے کے مراحل طے کرے، علماء سے شریعت کے مسائل پوچھئے، بزرگوں اور مشائخ سے تذکیہ باطن کے طریقے معلوم کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔

## باب ۸

### چند تنبیہات اور اہم ہدایات

دین میں نافع اور مفید طریقوں کو اختیار کرنا چاہئے اگرچہ  
کسی بزرگ اور شیخ کے ذوق اور طریقہ کے خلاف ہو

**فرمایا:** ہمارے بعض خاص حضرات میرے اس روایہ سے ناراض ہیں کہ میں  
اس دینی کام کے سلسلہ میں ہر طرح اور ہر وضع کے لوگوں اور مسلمانوں کے ہر گروہ کے  
آدمیوں سے ملتا ہوں.....

ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ طرز عمل ہمارے حضرت (مولانا خلیل احمد صاحبؒ<sup>ب</sup>  
سہارنپوری) نور اللہ مرقدہ کے طریقہ اور مذاق کے خلاف ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جس  
چیز کا دین کے لیے نافع اور نہایت مفید ہونا دلائل اور تجربہ سے معلوم ہو گیا اس کو صرف  
اس لیے اختیار نہ کرنا کہ ہمارے شیخ نے یہ نہیں کیا، بڑی غلطی ہے، شیخ شیخ ہی تو ہے خدا تو  
نہیں ہے۔ (ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب<sup>حص: ۱۴۲</sup>)

**تشریح:** حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع  
فرمایا: عام لوگوں کو دین کی راہ میں تین دن، ہفتہ، عشرہ، چلہ کے لیے نکلنے کی ترغیب دی،  
اس طور پر کام جماعتی طریقہ سے لوگ نکلیں، مسجد میں قیام کریں، لوگوں سے ملاقات کریں،  
اور اللہ کے دین کی دعوت دیں، یہ طریقہ بظاہر بالکل نیا تھا لیکن تجربہ نے ثابت کر دیا اور  
اب تو لاکھوں کا مشاہدہ ہے کہ دینی بیداری اور دینی تربیت کے لیے یہ طریقہ نہایت مفید

ہے، لیکن بہت سے حضرات کو اس میں خلجان تھا کہ اس طرح ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات کرنا نیز اس ہیئت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا نہ تو نصوص سے ثابت ہے نہ، ہی اسلاف اور اپنے مشائخ سے منقول ہے، اس لیے بہت سے لوگ متعدد تھے، بعض لوگوں نے بدعت تک کہہ ڈالا، بعض لوگوں نے محض اس بنا پر کہ ہمارے شیخ نے نہیں کیا لہذا ہم بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے، ان سب کے متعلق حضرت مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ دین کے سلسلہ میں اگر تجربہ سے کسی خاص طریقہ کا مفید ہونا ثابت ہو چکا ہوا اور اس میں کوئی ضرر بھی نہ ہو پھر اس کے اختیار کرنے میں کیا حرج ہے، اب یہ کہنا کہ ہمارے شیخ نے یہ نہیں کیا لہذا ہم بھی نہیں کریں گے، بڑی غلطی ہے، شیخ شیخ ہی تو ہے محض اس کا عمل اور رائے سند تو نہیں، خود وہ شریعت تو نہیں۔

رقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس سلسلہ میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی، اور حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ غلو اور افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، اور اب تک اس میں بتلا ہیں، اس لیے اس کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔

اصل میں شریعت میں دو چیزیں ہیں ایک وسائل دوسرے مقاصد، مقاصد جو دین و شریعت میں خود مقصود ہوتے ہیں، ان کی خاص شکل ہیئت کمیت و کیفیت یعنی مقدار اور طریقہ سب شریعت میں منصوص ہے، ایسی چیزوں کو مقصود فی الشرع اور مقاصد اصلیہ میں شمار کیا جاتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ کہ ان کی کیفیت، ہیئت، مقدار طریقہ سب منقول ہیں اور یہ اعمال انہیں کیفیات کے ساتھ مطلوب ہیں، اگر ان میں کوئی اپنی طرف سے کمی و زیادتی کرے، اوقات کی تعین میں خود رائی کرے، انفراد کو اجتماع اور اجتماع کو انفراد سے بدلے، یہ سب بدعت کے دائرہ میں آئے گا، اور ایسی ہی باتوں کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ (مشکوٰۃ شریف) یعنی جو کوئی دین میں نئی چیز یا نیا طریقہ ایجاد کرے وہ

ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ ایسے ہی امور کو بدعت اور احادث فی الدین کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے وسائل فی الدین، یعنی دین میں ایک عمل مقصود و مطلوب ہے، لیکن اس عمل کے لیے شریعت نے کسی خاص طریقہ اور خاص کیفیت وہیت کا پابند نہیں بنایا بلکہ زمانہ کے تغیرات اور بندوں کے حالات، صلاحیت، لیاقت، موقع محل اور مزاجوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کو اختیار دیا ہے کہ جو طریقہ مناسب اور مفید ہو اپنی صواب دیدا اور تجربہ کے مطابق اس کو اختیار کریں بشرطیکہ کسی حکم شرعی کے خلاف وہ طریقہ نہ ہو۔

مثلاً شریعت میں اعلاء کلمۃ اللہ کے خاطر جہاد مطلوب ہے اسی طرح حق کی اشاعت اور دعوت و تبلیغ کے لیے امر بالمعروف و نہی عن الممنکر مطلوب ہے لیکن شریعت نے اس کا کوئی خاص طریقہ نماز روزہ کی طرح متعین نہیں کیا کہ بندے بس خاص اسی طریقہ کے پابند رہیں بلکہ زمانہ اور حالات کے لحاظ سے بندوں کو اختیار دیا ہے حسب موقع، حسب ضرورت، حسب مصلحت جو طریقہ مناسب اور مفید سمجھ میں آئے اس کو اختیار کریں، اگرچہ بظاہر نیا طریقہ معلوم ہو، جو شریعت میں منصوص نہ ہو یا اسلاف و مشائخ سے منقول بھی نہ ہو، لیکن جب تجربہ سے اس کا مفید ہونا ثابت ہو تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، نہ ہی اس کو بدعت کہا جا سکتا ہے، ایسے ہی اعمال کو شریعت میں احاداث للدین اور وسائل سے تعبیر کرتے ہیں یعنی دین میں ایجاد نہیں بلکہ دین کے لیے بمنزلہ وسائل کے نئی صورت کو اختیار کیا جائے جیسے جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نیزہ اور تلوار، تیر و کمان سے ہوتا تھا لیکن اب بجائے اس کے بندوق اور توپوں کے ذریعہ ہوتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔

یہی حال دعوت و تبلیغ کا بھی ہے کہ دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف و نہی عن الممنکر جو شریعت میں مقصود ہے لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا، زمانہ اور حالات کے لحاظ سے اسباب کے درجہ میں جو صورت بھی اختیار کی جائے گی، وہ بلاشبہ درست ہوگی، نہ اس کو غلط کہا جائے گا اور نہ ہی منقول نہ ہونے کی وجہ سے بدعت کہا جائے

گا، اور نہ ہی اسلاف و مشائخ کا معمول نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کیا جائے گا، بشرطیکہ وہ طریقہ خود کسی معصیت پر مشتمل نہ ہو، دینی مدارس کا نظام، گھنٹوں کے اعتبار سے اوقات کی تعینیں بھی اسی قبیل سے ہے۔

یہ مطلب ہے مولانا الیاس صاحب<sup>ر</sup> کے اس فرمان کا کہ یہ طریقہ تجربہ سے مفید ثابت ہے، لہذا اس کو اختیار نہ کرنا بڑی غلطی ہے۔

لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنا چاہئے کہ ایسے امور اور طریقے جو بمزلمہ وسائل کے ہیں جن کو شریعت میں احادیث للدین سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ان کو وسائل کے درجہ ہی میں رکھا جائے گا، ان کے ساتھ مقاصد اصلیہ، منصوص فی الشرع جیسا معاملہ نہ کیا جائے کہ اس یہ خاص طریقہ ہی مطلوب ہے اور جو اس خاص طریقہ سے مسلک نہ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے بغیر نجات نہیں، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں، دعوت و تبلیغ کے دسیوں طریقے ہیں، خاص اسی طریقہ پر اصرار کرنا اور جو اس میں شریک نہ ہو اس سے بدگمان و بدزبان ہونا یا یہ سمجھنا کہ یہ دین کی خدمت نہیں کر رہا حالانکہ دوسری نوعیت سے وہ دینی خدمات انجام دے رہا ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے، بدگمانی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، وسائل کو مقاصد شرعیہ کا درجہ دینا شرعاً غلط اور باطل ہے، اسی کا نام غلوٰۃ الدین ہے۔ اس لیے دونوں پہلوؤں کی رعایت ضروری ہے، منقول نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں اور وسائل میں سے ہونے کی وجہ سے نہ اس پر اصرار اور تارک پر نکیر اور ملامت کر سکتے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ کی حقیقت۔ هذا هو الحق عندي والله اعلم۔

**مبادی کو غایات اور ذرا رائع وسائل کو مقاصد کا درجہ دینا**

**بہت بڑی غلطی ہے**

**فرمایا — آج کل دین کے باب میں یہ غلط فہمی نہایت عام ہو گئی ہے کہ**

مبادی کو غایات کا اور ذرائع کو مقاصد کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اگر غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ دین کے تمام شعبوں میں یہ غلطی گھس گئی اور ہزاروں خراپیوں کی یہ جڑ ہے۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب جس: ۸۸-۱۰۹)

**تشريع:** حضرتؐ نے نہایت اہم بات کی طرف توجہ دلائی اور تنبیہ فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دین میں دو قسم کی چیزیں مطلوب ہیں لیکن دونوں میں حیثیت کا فرق ہے، ایک اصل مقصود ہے اور ایک اس کے حاصل ہونے کا ذریعہ، جن کو ذرائع اور مقاصد سے تعبیر کیا جاتا ہے، مقاصد کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال بذات خود شریعت میں مقصود ہیں، اور وسائل ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ شریعت نے ان کا بھی حکم دیا ہے لیکن ان کی کوئی خاص شکل و صورت متعین نہیں کی بلکہ ان کی حیثیت محض وسیلہ اور ذریعہ کی ہے یعنی اصل مقاصد تک پہنچنے اور حاصل ہونے کا ذریعہ، جیسے نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات یہ مقاصد میں سے ہیں، اسی غرض سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور جہاد و قال تبلیغ، خروج فی سبیل اللہ یہ مقاصد میں سے نہیں بلکہ ذرائع اور وسائل میں سے ہیں، یعنی مقاصد کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہیں، حکم شریعت نے دونوں کا دیا ہے، لیکن دونوں کی نوعیتوں اور حیثیتوں میں فرق ہے، حضرتؐ فرماتے ہیں کہ ذرائع کو مقاصد سمجھ لینا یا ذرائع کو مقاصد کا درجہ دینا اور مقاصد سے غافل ہو جانا اس میں کوشش نہ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جیسے کوئی جہاد اور تبلیغ کو کافی سمجھے اور اصل اعمال نماز، روزہ و دیگر معاملات کی طرف سے غافل ہو۔

## بجائے مسجد کے گھروں میں نوافل و عبادات کا اہتمام کرو

**فرمایا:** مسجدوں کو نوافل کا گھر نہ بناؤ۔ (ارشادات ص: ۹۱-۹۲)

**تشريع:** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ (ترمذی شریف حدیث: ۳۶۰، باب: ۲۱۶)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ کہ وہاں نماز نہ پڑھو، جیسا کہ قبروں میں نمازوں پڑھی جاتی، بلکہ نمازوں اور دیگر عبادات کے ذریعہ اپنے گھروں کو آباد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں مسجد سے آ کر گھر ہی میں ادا فرماتے تھے، افضل بھی یہی ہے، البتہ آج کل عام طور پر غفلت والا پرواہی غالب ہے، خطرہ ہے کہ مسجد سے باہر تکمیل تو سنتیں ہی چھوڑ دیں، اس لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ آج کے حالات میں مساجد ہی میں سنتیں پڑھنا افضل ہے، لیکن ان کے علاوہ دیگر نوافل گھروں ہی میں پڑھنا چاہئے، یہی مطلب ہے حضرت مولانا الیاس صاحب کا کہ مسجدوں کو نوافل کا گھرنہ بناؤ، یعنی نوافل، ذکر و قرآن وغیرہ کا اہتمام گھروں میں کثرت سے کیا کرو۔

ایک حدیث پاک میں آپ نے صراحةً فرمایا: **أَفْضُلُ صَلَاتِكُمْ فِي بَيْوَتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةً**۔ (ترمذی شریف باب ماجاء فی **أَفْضُلُ صَلَاةٍ** الطوع فی الْبَيْتِ بَابٌ (۲۱۶)، حدیث: ۲۵۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری افضل نمازوں میں وہ ہیں جن کو تم گھروں میں ادا کرو، فرائض کے علاوہ یعنی فرائض کا تو مساجد میں ہی ادا کرنا ضروری ہے، البتہ نوافل کا اہتمام گھر میں ہونا چاہئے۔

## اپنی مساجد کو مسجد نبوی کے طرز پر اعمال نبوت سے آباد کیجئے

**فَرَمِيَّا** — مسجدیں مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، اس لیے ان میں وہ سب کام ہونے چاہئیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز کے علاوہ تعلیم و تربیت کا کام بھی ہوتا تھا، اور دین کی دعوت کے سلسلہ کے سب کام بھی مسجد ہی سے ہوتے تھے، دین کی تبلیغ یا تعلیم کے لیے وفاد کی روائی بھی مسجد ہی سے ہوتی تھی، یہاں تک کہ عساکر کا نظم بھی مسجد ہی سے ہوتا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں بھی اسی طریقہ پر یہ سب کام ہونے لگیں۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۱۶۸-۲۰۷)

**فائده:** ان اعمال نبوت میں سے بعض کاموں کو ہمارے علماء و فقہاء نے دلائل کی روشنی میں منع فرمادیا ہے جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) عورتوں کا مساجد میں آنا خواہ نماز پڑھنے کی غرض سے ہو، عوارض و مفاسد کی بنابر فقہاء نے منع کیا ہے، ممانعت کے شرعی دلائل کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

(۲) امارت و سیاست اور حکومت و عسکریت سے متعلق مشورے و اجلاس اور لشکر کی ترتیب بھی ممنوع ہے، کیونکہ آج کے دور میں عموماً سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے اور ارباب سیاست و حکومت دینی و اخلاقی پستی کے اس درجہ کو پہنچ چکے ہیں کہ اس حالت میں رہتے ہوئے ان کاموں کو انجام دینے کے وقت مسجد کی حرمت و آداب کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ”جنبوا مساجد کم صبیان کم و خصومات کم و حدود کم و شراء کم و بیعکم“۔

(طبرانی، جمع الفوائد ارج ۵۰۱، حدیث: ۹۶۷)

اور ایک روایت میں ہے ورفع أصواتکم (یعنی اپنی مساجد کو بچوں سے اور آواز کے بلند ہونے سے اور خصومات، حدود اور بیع و شراء سے محفوظ رکھو) کے صریح خلاف لازم آنے کا احتمال ہی نہیں یقین ہے۔ اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ (۳) یہی صورت حال مقدمات اور فصل خصومات کی بھی ہے، کہ موجودہ حالات میں قضاۓ اور فصل خصومات کی اجازت دینے سے مسجد کی حرمت کو باقی ہی نہیں رکھا جا سکتا، اور نہ ہی ناپاک اور جنی لوگوں کو مسجد میں داخلہ سے باز رکھا جا سکتا ہے اور صحابہ پر قیاس قیاس مع الفارق ہے۔

(۴) اسی طرح ضرورت شدیدہ کے بغیر اجرت کے ساتھ یعنی تنخواہ دے کر مسجد میں قرآن پاک اور دینی تعلیم کو بھی فقہاء نے منع فرمایا ہے۔

باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد نبوی جن اعمال سے معمور اور آباد رہتی تھی ان میں سے بعض اعمال کی تفصیل درج ذیل ہے، جن سب کا حاصل مقاصد

نبوت (یعنی تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس) کی تکمیل جس کے مختلف ذرائع ہیں جو آپ اختیار فرماتے تھے ان میں چند یہ ہیں:

## مسجد نبوی میں ہونے والے اعمال

- ۱- **تبلیغ دین:** کہ آپ صحابہ کو مختلف علاقوں میں تبلیغ دین کے لیے روانہ فرماتے تھے۔
- ۲- **تعلیم دین:** یعنی علم دین سیکھنے سکھانے کا اہتمام جس میں فضائل و مسائل دونوں کی تعلیم شامل ہے، نیز قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا بھی اس میں شامل ہے۔
- ۳- **ذکر کے حلقات:** مسجد نبوی میں ذکر کے حلقات بھی لگتے تھے اس طرح کہ لوگ اپنے اپنے طور پر ذکر و تلاوت اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔
- ۴- **وعظ و تذکیر:** حسب موقع و ضرورت آپ وعظ اور تقریبی فرماتے تھے جس میں منکرات کی اصلاح، معاشرہ کی اصلاح اور ضروری مسائل کا بیان ہوتا تھا۔
- ۵- **اصلاحی مجلس:** بکثرت ایسا بھی ہوتا کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور اس مجلس میں دینی اور اصلاحی تذکرے ہوتے۔
- ۶- **قضاء و افتاء:** ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے حضور میں کوئی قضیہ اور مقدمہ پیش ہوتا یا کوئی نیا واقعہ پیش آتا تو آپ فریقین کی بات سن کر فیصلہ فرماتے اور مسئلہ کا جواب دیتے۔
- ۷- **تزکیہ نفوس و اصلاح باطن:** مسجد نبوی میں آپ یہ کام بھی انجام دیتے جس کو صوفیاء و مشائخ انجام دیتے ہیں، یعنی قلوب کا تزکیہ مثلاً ایک صحابی آئے اور عرض کیا میرازنا کرنے کو جی چاہتا ہے، بعض صحابی نے وساوس و خطرات کی شکایت کی، بعض صحابہ نے غصہ کی اور دل کی سختی کی شکایت کی، بعض صحابہ نے اپنے اوپر نفاق کا خدشہ ظاہر کیا، آپ نے سب کا علانج فرمایا اور تسلی بخش جواب دیا، بعض گنہگار صحابہ آئے آپ نے توہہ کرائی، بعض صحابہ کو بیعت فرمایا۔
- ۸- **اعتكاف رمضان:** مسجد نبوی کے اعمال میں سے اہم عمل رمضان شریف

میں اعتکاف کرنا ہے، اخیر عشرہ میں تو آپ اعتکاف فرماتے ہی تھے بعض موقعوں میں پہلے دوسرے عشرہ میں یعنی پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا۔

آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی بڑی تعداد اور جماعت اعتکاف میں شریک رہتی تھی، آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو بھی اعتکاف کی ترغیب دی اور ایک موقع پر پردہ اٹھا کر فرمایا جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔

**۹- تعلیم قرآن و تعلیم صلوٰۃ:** مسجد نبوی میں آپ لوگوں کو قرآن پاک اور التحیات دعا ما ثورہ وغیرہ سکھاتے تھے حدیثوں میں اس کے مختلف واقعات مذکور ہیں، بعض صحابہ کی نماز کو دیکھ کر آپ نے تنبیہ فرمائی، اور آپ نے پوری نماز سکھلائی۔

**۱۰- نعتیہ اشعار:** بعض موقعوں پر آپ نے بعض شاعر صحابہ مثلًا حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو منبر پر بٹھا کر اشعار بھی سنے ہیں احیاناً ضرورت کے وقت پسندیدہ اشعار اور حمد و نعتیہ کلام سے مسجد کو آباد کرنا بھی مسجد نبوی کی سنت ہے، لیکن مسجد میں مروجہ مشاعرہ کی محفل قائم کرنا درست نہیں کہ اس شور شغب میں مسجد کی حرمت کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ واللہ اعلم۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسجد میں یہ سارے کام ہوا کرتے تھے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے فرمایا کہ اپنی مساجد کو اعمالِ نبوت سے آباد کرنے کی کوشش کرو۔

## ایک ضروری تنبیہ

**فائده:** بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد کا حق یہ ہے کہ ہر وقت ان کو آباد رکھا جائے، ہر وقت مسجد میں علم و ذکر کے حلق قائم رہیں، ہر ہر فرد مسجد میں کئی کئی گھنٹے گزارنے کا معمول بنالے، تاکہ مساجد میں رہ کر اعمالِ مسجد کو زندہ کریں، اور مسجد کو آباد رکھنے اور اس عمل کو زندہ کرنے کیلئے ایک نظام بھی تجویز کیا ہے کہ کچھ لوگ بذریعہ

گشت دوسروں کو مسجد میں آنے کی دعوت دیں، کچھ لوگ مسجد میں آنے والوں کا استقبال کریں، اور کچھ لوگ اعمال مسجد کو زندہ کریں، یعنی فضائل کی تعلیم سے مسجد کو آباد رکھیں، گویا ۲۳ گھنٹہ یادن کے اکثر اوقات میں مسجد ہر وقت آبادر ہے، اور اس عمل کا نام رکھا گیا ہے ”دعوت تعلیم واستقبال“۔

بہت سے لوگ نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت سے مسجد کو آباد رکھنا شرعاً ضروری ہے، اور یہ مسجد کا ایسا حق ہے جو شرعاً لازم ہے، اور اس نوعیت سے مسجد کو آباد نہ کرنے والے غفلت و کوتا ہی کا شکار ہیں، بلکہ گنہگار ہیں، کیونکہ مسجد کی آبادی میں حصہ نہیں لے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر وقت مساجد آبادر ہتی تھیں، صحابہ کرام اکثر اوقات مساجد ہی میں گزارا کرتے تھے، بطور دلیل کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث پاک بیان کرتے ہیں جس میں ابو ہریرہ نے بازار میں لوگوں سے کہا کہ تم یہاں موجود ہو اور مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، لوگ گئے دیکھا کہ وہاں تعلیم و ذکر کے حلقے قائم ہیں لوگ دین سیکھ رہے ہیں۔

یہ اور اس نوع کے بعض واقعات سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہر وقت مساجد کو آباد رکھنا ضروری ہے، سواس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔

”دعوت تعلیم واستقبال“ کا عمل اگر اصلاح و تربیت اور دینی تعلیم و ترقی، فضائل و مسائل سیکھنے کے لیے وسائل اور تداریک کے درجہ میں ہے جس طرح کہ مدارس میں تعلیم و تدریس کے حلقے لگتے ہیں، اور ایک نظام کے تحت تعلیم و تعلم کا سلسہ جاری رہتا ہے تو بے شک یہ درست اور پسندیدہ ہے، اور بلاشبہ اس کے دینی فوائد بھی ہیں۔

اور اگر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ نہیں بس یہ عمل ہی اس کیفیت وہیت کے ساتھ مقصود ہے، اس کے بغیر ہم گنہگار اور مسجد کی حق تلفی کرنے والے شمار ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مساجد کو اسی طرح آبادر رکھتے تھے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو حکم دیا گیا ہے ”فَإِذَا قُضِيَتِ الصلوةُ فَانتَشِرُوا فِي

الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ” (پ: ۲۸) کے نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے فضل اور اس کی روزی تلاش کرنے میں نکل پڑو..... صحیح اور راجح تفسیر یہی ہے، جس کو علامہ ابن کثیر اور مفتی محمد شفیق صاحب نے بھی ذکر کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ سنن و نوافل بجائے مسجد کے گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی عبد الاشہل میں مغرب کی نماز ادا فرمائی، صحابہ کرام بعد نمازوں نوافل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے صحابہ سے فرمایا ان نمازوں کو گھروں میں پڑھا کرو، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد بنی عبد الاشہل المغرب فقام ناس یتنفلون فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عليکم بهذه الصلاة فی البيوت۔ (ترمذی شریف باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب في البيت أفضـل، باب: ۳۱۹، حدیث: ۶۰۱)

عمومی انداز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کو حکم دیا کہ صلوا فی بیوتکم ولا تتحذ وها قبورا۔ ایک روایت میں فرمایا افضل صلوتکم فی بیتکم الا المکتوبۃ۔ (ترمذی شریف باب ما جاء في فضل صلاة الطوع في البيت باب: ۳۱۵، قبل باب الوتر) یعنی گھروں میں نماز پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنادو کہ جس طرح وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی تم بھی گھروں میں نمازنہ پڑھو، فرائض کے علاوہ نوافل کا گھر میں پڑھنا ہی افضل ہے۔

ابوداؤ شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز کے علاوہ دوسرے وقت میں مسجد میں دیکھا تو فرمایا کہ کیا بات ہے میں تم کو نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے اپنی پوری بات سنائی — پورا قصہ منتخب احادیث میں بھی ص: ۲۵۵ دعا کے بیان میں ابو داؤد کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا بھی عام معمول مسجد میں اوقات گزارنے کا نہ تھا، عن أبي سعید الخدري رضي الله

عنه قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد فاذا برجل من الانصار یقال له أبو امامہ فقال يا أبا امامۃ مالی أراک جالساً فی المسجد فی غیر وقت الصلوة۔ (ابوداود باب فی الاستھاذة: ۱۵۵۵)

حدیثوں میں ایسے واقعات مذکور ہیں کہ آپ کی زندگی میں اہم واقعات پیش آئے کسوف و خوف، سورج گھن کا موقع آیا بعض وفود آئے ان کی بدحالی کو دیکھ کر آپ رنجیدہ ہوئے حضرت بلاں کو حکم دیا، انہوں نے اعلان کیا یا اذان دی تو لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، یعنی اس سے پہلے جمع نہ تھے بلکہ اعلان کے بعد جمع ہوئے پھر آپ نے وعظ فرمایا۔

(مسلم شریف وغیرہ)

ان سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول یہ نہ تھا اور نہ ہی یہ بات شرعاً مطلوب ہے، نہ مسجد کا حق لازم ہے کہ ہر وقت مسجد آباد رہے، لوگ وہاں ذکر و عبادت اور نوافل میں مشغول رہیں، ہاں تعلیم و تعلم کی غرض سے یا وعظ و نصیحت کی غرض سے، کسی وقت بھی لوگ مسجد میں قیام پذیر ہو سکتے ہیں، جیسے مدارس کی مساجد میں طلبہ پڑھتے پڑھاتے نظر آتے ہیں، ضرورت کے موقع پر صحابہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے دو حلقوں کو دیکھا ایک تعلیم و تعلم میں مشغول تھا، دوسرا ذکر و عبادت میں، آپ نے دونوں کی تعریف فرمائی اور علم کے حلقة کو ترجیح دے کر اس میں بیٹھ گئے اور فرمایا: إنما بعثت معلماً (مشکوہ شریف)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اسی نوعیت پر محمول ہے بس اتنی ہی حقیقت ہے اس عمل کی، واللہ اعلم۔

## رمضان المبارک میں نقل و حرکت کی اہمیت

اللہ کی دہش رمضان میں پھرنے میں ہے، رمضان کو نیکیوں سے زیادہ معمور کرو، اس کی یہ مہمان داری ہے۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۳۶)

**تشریح:** رمضان المبارک میں حق تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے اور دوزخ کے بند کردیئے جاتے ہیں، نیک کاموں کا جر و ثواب بڑھادیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ۷۰٪ (سترن) فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس ماہ مبارک میں جو بھی نیک کام کیا جائے گا دوسرے ماہ کے مقابلہ میں اس ماہ میں کام کرنے کا اجر و ثواب بھی بڑھادیا جائے گا۔

اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے لیے نکنا ہو یا اللہ کے راستے میں قفال و جہاد کے لیے نکنا ہو، یا طلب علم کے لیے اللہ کے راستے میں نکنا ہو، الغرض جو بھی دینی کام اس ماہ مبارک میں اللہ کے واسطے ہوگا اس کا اجر و ثواب دوسرے ماہ کے مقابلہ میں بڑھادیا جائے گا، دینی کام کے لیے چندہ کرنا بھی شریعت کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت اور دینی تقاضا ہے، اگر اخلاص کے ساتھ دینی ضرورت کے پیش نظر رمضان میں یہ کام کیا جائے تو دوسرے ماہ کے مقابلہ میں اس عمل کا ثواب بھی زیادہ ہو گا۔

لیکن رمضان شریف کی اہم عبادات اعتکاف بھی ہے، آپ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، صحابہ کرام کی بڑی جماعت آپ کے ساتھ معتکف ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے پہلے دوسرے عشرہ کا اعتکاف فرمایا پھر پرده اٹھا کر صحابہ کی معتکف جماعت سے فرمایا کہ جو لوگ معتکف ہیں وہ آخر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں اور آپ نے اس کی مصلحت بھی بیان فرمائی، فضائل رمضان میں پوری حدیث پاک ذکر کی ہے۔

(بخاری و مسلم، مشکوہ، فضائل رمضان، فصل ثالث، حدیث: اص: ۲۸۷، اعتکاف کا بیان)

الغرض حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں آپ اعتکاف فرماتے تھے اور صحابہ کرام کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ معتکف ہوتی تھی، اس لیے اگر رمضان شریف میں اعتکاف کیا جائے یا کوئی شخص صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی بزرگ و شیخ کے پاس جا کر اعتکاف کرے اور رمضان شریف کے ایام بحالت اعتکاف

گذارے اور اس غرض سے نقل و حرکت کرے تو یہ نقل و حرکت بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگی اور اتباع سنت و احیاء لیا لی کا ثواب اس سے علیحدہ ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی، اس لیے جس کے جیسے حالات ہوں اور جیسا وقت کا تقاضا ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔

عام حالات میں تو یہی حکم ہے جو اور پر مذکور ہوا، حالات خاصہ میں حکم بھی خاص ہوگا، جیسا کہ غزوہ بدرا میں خاص حالات کے تحت آپ نے خروج فرمایا، لیکن ہمیشہ کا معمول آپ کا اور صحابہ کا رمضان المبارک میں خصوصاً آخر عشرہ میں اعتکاف ہی کا تھا، اس لیے اس کی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی اس سنت کو زندہ رکھنا چاہئے۔

## شب جمعہ میں کارکنانِ تبلیغ کا اجتماع

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:

کارکنوں میں ایک دوسرے سے ربط اور کام میں روح اور سرگرمی پیدا کرنے کے لیے جمعہ کی رات نظام الدین میں قیام کرنے کے لیے اور مہینہ کا آخری چہارشنبہ تمام جماعتوں کے جامع مسجد میں جمع ہونے، اپنی کارگذاری سنانے اور کام کے لیے مشورہ کرنے کے لیے تجویز کیا۔

مولانا خود بھی اس اجتماع میں بڑے اهتمام سے شریک ہوتے، اور دوسرے علماء و صلحاء کے بھی شریک کرنے کی کوشش کرتے، شب جمعہ کو نظام الدین آنے کی عمومی دعوت دیتے۔ (مولانا محمد الیاس صاحبؒ کی دینی دعوت ص: ۱۳۲)

## نہایت ضروری تنبیہ

دعوت و تبلیغ کے خاطر اجتماع جیسا کہ تبلیغی حضرات کا معمول ہے کہ شب بیداری اور شب گذاری کے لیے مہینہ یا ہفتہ میں ایک مرتبہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور سب مل کر

وقت گذارتے اور عبادت کرتے ہیں، اس کے مستحسن اور پسندیدہ ہونے میں کوئی شہر نہیں، اس کے فوائد کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، انہیں فوائد کے پیش نظر مرکز نظام الدین میں جمعہ کی رات اور مہینہ کا آخری چہارشنبہ مخصوص تھا جس میں اصحاب تبلیغ رات کو جمع ہوتے تھے، لیکن اس اجتماع کے متعلق اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ اگر یہ اجتماع وعظ و تبلیغ کے لیے ہے یا امر بالمعروف و نہی عن الممنکر کے لیے یا تبلیغی کام کی کارگذاری سنانے اور آئندہ کے لیے لائج عمل تجویز کرنے اور مشورہ کرنے کے لیے ہے

تب تو بلاشبہ درست نہ صرف درست بلکہ بہتر اور پسندیدہ عمل ہے۔

لیکن یہ اجتماع اگر اس غرض سے ہو جیسا کہ بہت سے ناواقف لوگ سمجھتے ہیں اور ان کی زبانوں پر بھی یہ بات آتی ہے کہ اجتماعی عمل میں خیر ہے، سب مل کر جائیں گے، شب بیداری کریں گے، یعنی یہ اجتماع اور شب گذاری و شب بیداری برائے ذکر و عبادت ہونے لگے، تو پھر اب یہ عمل شرعاً ممنوع اور ناجائز بلکہ بدعت ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا تختصوا ليلة الجمعة بقیام من بين الليالي۔ (مسلم شریف، فتح لمسلم ۳/۱۵۵، جمع الفوائد حدیث: ۲۲۳۰)

جس کا مطلب یہ ہے کہ شب بیداری کے لیے جمعہ کی رات کی تخصیص مت کرو، اس کے ضمن میں علامہ عثمانی نے فتح لمسلم ص: ۱۳۵، ج: ۳، (مطبوعہ پاکستان مکتبہ مدنیہ لاہور) میں کافی تفصیل ذکر فرمائی ہے، جس میں اس کی ممانعت کے دلائل لکھے ہیں۔

نوافل عبادت کے لیے یا شب بیداری کے لیے لوگوں کے جمع ہونے کو تمام فقهاء نے ناجائز اور بدعت لکھا ہے، ماہ رجب میں صلاۃ الرغائب کی کراہت اور ممانعت کی بنیاد بھی فقهاء نے یہی لکھی ہے، نیز شب قدر و شب براءت میں عبادت کی غرض سے جمع ہونے کو عام طور پر ممنوع اور ناجائز لکھا ہے، برائین قاطعہ میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارپوری نے بھی اس کو غلط اور بدعت قرار دیا ہے۔

اردو فتاویٰ میں فتاویٰ محمودیہ ۵/۲۹۸ میں متعدد کتب فقہ کے حوالہ سے ممنوع اور

قابل نکیر لکھا ہے، علامہ حلی نے شرح منیہ میں ص: ۳۲۷ میں علامہ ابن حجیم نے الہر الرائق ۵۲۱ میں اور مرافق الفلاح ص: ۲۶ میں اور علامہ ابن الحاج مالکی نے المدخل (فصل فی ذکر صلاۃ الرغائب ۲۸۸) میں اور اس کے علاوہ دوسرے فقہاء و محدثین نے اس کو مکروہ اور بدعت قرار دیا ہے، نیز حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے بھی اصلاح الرسوم ص: ۱۴۵ افضل پنجم و ص: ۱۲۹ او ۱۰۷ میں اس کو دلائل سے خلاف شرع لکھا ہے۔ اس لیے ہمارے تمام تبلیغی احباب کو اس حقیقت سے غافل نہ ہونا چاہئے کہ شب گذاری و شب بیداری کے عنوان سے یہ اجتماع صرف وعظ و تبلیغ کے لیے یا تبلیغ کارگذاری سنانے اور آئندہ کے لیے لائج عمل اور مشورہ کے لیے ہو، جیسا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ کا معمول تھا، یہ اجتماع محض عبادت کے لیے نہ ہو، یعنی محض شب بیداری و شب گذاری کے خاطر اجتماع نہ ہو، ورنہ اس کے ممنوع اور بدعت ہونے میں کوئی شب نہیں ہوگا، ہمارے تمام فقہاء اور اکابر اس پر متفق ہیں۔

الحمد للہ اب تک ایسا نہیں ہے، یعنی اصحاب تبلیغ کا یہ اجتماع کارگذاری اور مشورہ وغیرہ کے لیے ہی ہوتا ہے نہ کہ محض عبادت کے لیے اس لیے اس کو غلط اور بدعت نہیں کہا جا سکتا، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط ضروری ہے کہ خدا نخواستہ نفس اجتماع ہی مقصود نہ بن جائے، اسی غرض سے یہ پوری تفصیل عرض کی گئی۔

## عبادت کے مختلف انواع

فلکری عبادت کی بھی فکر کیجئے جو ستر سالہ عبادت سے بہتر ہے

**ارشاد فرمایا:** بدنبال عبادت سے فلکری عبادت اتنی (اہم) ہے کہ ستر سالہ عبادتوں کے مقابلہ میں ایک گھڑی کی فکر زیادہ (اہم) ہے۔ (ارشادات و مکتوبات ص: ۲۵)

**فرمایا:** لوگوں کو دین کی طرف لانے اور دین کے کام میں لگانے کی تدابیر

سوچا کرو، جیسے دنیا والے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے تدبیریں سوچتے رہتے ہیں، اور جس کو جس طرح متوجہ کر سکتے ہو اس کے ساتھ اسی راستے سے کوشش کرو۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب حصہ: ۱۰۱ المفوظ: ۱۲۱)

**فائده:** حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کی مختلف فرمیں ہیں بدنبی عبادت جیسے نماز، روزہ، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ، صدقہ اور قربانی، فکری عبادت جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کمالیہ میں غور و فکر کرنا یا اس کے دین کی خدمت میں طریقوں و تدبیروں میں غور و فکر کرنا کہ کام کس طرح کیا جائے یہ سب فکری عبادت کے دائِرہ میں آتا ہے۔ اسی کو باطنی عبادت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

ظاہری عبادت ہو یا باطنی ان میں سے ہر ایک کی دو و فرمیں ہیں وجودی، اور عدمی، وجودی عبادت وہ کھلاتی ہے جس میں اعضاء جوارح سے کچھ ظاہری اعمال کرنا پڑتے ہیں، جیسے نماز اور عدمی عبادت وہ کھلاتی ہے جس میں اعضاء جوارح سے کچھ ظاہری اعمال کا کرنا ضروری نہیں، بلکہ چند مخصوص اعمال سے رکے رہنا، اور نہ کرنا یہی عبادت ہے، جیسے روزہ کہ اس میں کچھ نہ کرنا ہی روزہ کی حقیقت میں شامل ہے، کیونکہ روزہ کہتے ہیں کہ روزہ کی نیت سے صحیح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے رکے رہنا، تو یہ عدمی عبادت ہوئی۔

اسی طرح باطنی عبادت کی بھی دو فرمیں ہیں وجودی، اور عدمی، وجودی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باطن میں یعنی قلب میں کچھ مخصوص صفات کو پیدا کرنا، غور خوض کرنا، فکر کرنا، مثلاً دل میں اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت، اللہ واسطے نیک بندوں کی محبت، پیدا کرنا، شریعت میں جو عقائد مطلوب ہیں ان عقائد کو دل میں راسخ کرنا، یہوی بچوں اور والدین کی محبت جس درجہ میں مطلوب ہے اس درجہ میں ان کی محبت دل میں ہونا، یعنی ان صفات کا اپنے باطن میں موجود کرنا اور ان صفات سے متصف ہونا، یہ باطنی اور وجودی عبادت ہے۔

باطنی عدمی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باطن اور قلب میں صفاتِ رذیلہ کا نہ ہونا، قلب کا باطنی گناہوں سے پاک ہونا، مثلاً دل میں کسی کی طرف سے کینہ بغض، حسد، عداوت کسی کی بد خواہی کا جذبہ نہ ہونا، غیر اللہ کی ناجائز محبت عشق و فشق نہ ہونا، یہوی بچوں، خاندان اور مال و دولت کی محبت اس درجہ کی نہ ہونا جو اس کو احکام شریعت پر عمل کرنے سے روک دے، اسی طرح قلب کا عقائد فاسدہ سے خالی ہونا، عشق و فشق کے یا کسی اجنبیہ کے گندے خیالات کا دل میں نہ لانا یہ سب باطنی عدمی عبادت کے دائرہ میں آتا ہے، اگر اسکے خلاف کرے گا تو باطنی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے ”وَذُرُوا ظَاهِرَ الْاثِمِ وَبِاطِنَهُ“ (پ: ۸، انعام) کہ ظاہری اور باطنی سب گناہوں کو چھوڑ دو، باطنی عبادات جو وجودی ہیں ان کو اختیار کرنا اور باطنی رذائل و معائب سے پاک و صاف ہونا، اسی کا نام تزکیہ و تصفیہ ہے، جو نبیوں والا کام ہے جس کو قرآن نے اس آیت میں بیان کیا ہے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُنَزِّكُهُمْ (پ: ۱، سورہ بقرہ) سے تعبیر کیا ہے۔

اب سمجھتے حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ فرماتے ہیں کہ بد نی عبادت کے مقابلہ میں فکری عبادت ستر سال بد نی عبادت سے افضل ہے، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں:

فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة، اخرجه أبوالشيخ في كتاب العظمة، وفي رواية تفكر ساعة خير من عبادة سنة آخرجه ابن حبان في كتاب العظمة۔ (دلیلی عن انس حدیث: ۷۲۳، احیاء العلومص: ۳۶۱، نوادرص: ۳۶۲)

یعنی تھوڑی دیر کی فکری اور باطنی عبادت ساٹھ سال بد نی عبادت سے افضل ہے۔

یہ فکری اور باطنی عبادت وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ”الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ“۔ (اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو آسمان و زمین کی

خلقت میں تفکر کرتے ہیں) اس آیت میں فکری اور باطنی عبادت ہی کا ذکر ہے۔

فکری عبادت کی مختلف صورتیں اور مختلف فہمیں ہوتی ہیں جن سب کا حاصل یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت و خلقت اور اس کی صفات کمالیہ میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات و ارشادات کو سمجھنے میں تدبر کرنا، دین حق کی اشاعت کے طریقوں اور تدبیروں میں غور و فکر کرنا یہ سب فکری عبادت کے دائرہ میں آتا ہے، فکری عبادتوں میں بطور مثال کے چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کی قدرت و خلقت اور اس کی نشانیوں میں غور کرنا، اسی طرح حق تعالیٰ کی ان صفات میں غور و فکر کرنا جن سے ایمان و یقین میں ترقی اور حق تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو۔

(۲) انبیاء علیہم السلام کے واقعات جو قرآن پاک میں آئے ہیں، نیز انبیاء علیہم السلام کے محبّات میں غور کرنا کہ اس سے بھی ایمان و یقین میں پختگی اور اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بات درس قرآن کے ذریعہ آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

(۳) حق تعالیٰ کی نعمتوں کا جو اس نے بندوں پر کر رکھی ہیں ان نعمتوں کو خصوصاً جو اپنے اوپر انعامات کی بارش کر رکھی ہے اس کو بار بار سوچنا اور اس میں غور و فکر کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۴) اسلامی تعلیمات اور احکام شرعیہ کے محسن میں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور اس کی خوبیوں اور محسن میں غور کرنا تاکہ اسلامی احکام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر و عظمت اور ان سے محبت پیدا ہو۔

(۵) حق تعالیٰ کے احکام جو کتاب و سنت میں بیان کئے گئے ہیں جن میں بعض آسان اور بعض بہت مشکل اور دقیق ہیں بعض کا تعلق عبادت سے ہے بعض کا تعلق معاملات، نجع و شراء، سود و غیرہ سے ہے۔

حق تعالیٰ کے جملہ احکام شرعیہ میں صحیح طریقہ کے مطابق غور و فکر کرنا اور کتاب و سنت کی روشنی میں احکام و مسائل کو سمجھنا اور اس میں تفہم و تدبر کرنا، بڑے درجہ کی فکری اور

باطنی عبادت ہے، جیسے انہے مجتہدین کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرنے میں غور و فکر کیا کرتے تھے، یا علماء و محققین ارباب افتاء مسائل کو حل کرنے، سمجھنے سمجھانے کے لیے تفروہ تدبر کرتے ہیں، فکری عبادت کی یہ اعلیٰ قسم میں شمار ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوع کی عبادت کے ایک فرد اور ایک جزء یعنی ایک مسئلہ میں غور کرنے کے بعد سمجھنے سکھانے کو ہزار رکعات سے افضل قرار دیا ہے۔

(ابن ماجہ)

الغرض احکام شرعیہ، کتب فقہیہ کے مسائل میں غور و خوض کرنا، مطالعہ کرنا فکری عبادات میں اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔

(۶) اسی طرح قرآن و حدیث کے معانی و مطالب میں غور کرنا اس کا مطالعہ کرنا، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بھی فکری عبادت ہے۔

(۷) حق کی اشاعت دین کی اشاعت، کتاب و سنت کی اشاعت کی غرض سے مختلف تدبیریں سوچنا مثلاً جماعتوں کی تشکیل، آئندہ کس علاقہ میں کیسے کام کیا جائے، جماعتیں کہاں روانہ کی جائیں، اجتماع کہاں کیا جائے، اہل باطل کی تبلیغ کا دفاع کیسے کیا جائے، ارتدازدہ علاقوں میں کام کیسے کیا جائے، منکرات و معاصی اور فاسد معاشرہ اور معاشرہ میں رانچ ہرسومات کو کیسے ختم کیا جائے، شرعی طور پر میراث کو تقسیم کرنے کا عمل کیسے زندہ کیا جائے۔

کتاب و سنت کی اشاعت اس کے الفاظ و معانی کی ترویج و تبلیغ کے لیے کیا حکمت عملی اور تدبیر اختیار کی جائے، مدارس و مکاتب درس قرآن و درس حدیث و فقہ اور احیاء سنت کے نظام کو کیسے چلایا جائے، اسباب و سائل کے درجہ میں ان امور میں غور و فکر کرنا یہ سب بھی فکری عبادت کے دائرة میں آتا ہے جو سانحہ سالہ عبادات سے بہتر ہے۔

اگرچہ فکری عبادات میں باہم مختلف درجات ہیں، بعض بمنزلہ وسائل کے ہیں اور بعض بمنزلہ مقاصد کے مثلاً شروع کی چھ مثالوں میں غور و فکر کرنا بذاتِ خود عبادت

میں شامل ہے کیونکہ مقاصد میں ہے، جب کہ بعد کی مثالوں میں غور و فکر کرنا بخوبی و سائل کے ہے کہ اصل مقصد کے حاصل کرنے کی تدبیروں میں غور و فکر کرنا ہے اس لیے وسائل و مقاصد کے لحاظ سے دونوں کی اہمیت اور ثواب میں بھی فرق ہوگا۔ پہلی صورتوں کا درجہ بعد کی صورتوں سے بڑھ کر ہوگا، واللہ اعلم۔

## جو جس درجہ اور جس صلاحیت کا ہواں سے وہی کام لو

**فرمایا:** صحیح طریق کاری یہ ہے کہ جو کام نازل (کم) درجہ کے لوگوں سے لیا جاسکتا ہو وہ انہیں سے لیا جائے، ان سے مافوق (بڑے) لوگوں کا اس میں لگنا جب کہ نازل درج کے کام کرنے والے بھی نصیب ہوں، بڑی غلطی ہے، بلکہ ایک طرح کا کفران نعمت (ناقدری و ناشکری) اور نیچے درجہ والوں پر ظلم ہے۔ (ملفوظات مولانا محمد الیاس عس: ۱۶۸، ملفوظ: ۲۰۸)

**فائده:** حضرت گاہیہ فرمان نہایت ضروری اور شریعت کے مسلمہ اصول کا ترجمان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کی فطری و کسبی اور علمی و عملی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، جو جس صلاحیت واستعداد اور جس کام کا اہل ہواں سے وہی کام لیا جائے، سب کو ایک ہی کام سے منسلک کرنے کی کوشش کرنا اور سب کے لیے ایک معیار اور پیمانہ مقرر کرنا شریعت کے مسلمہ اصول نیز سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔

**اللہ تعالیٰ کا فرمان:** ”وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيُنَفِّرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنِدِّرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ يَحْذَرُونَ“ بھی اس کی واضح دلیل ہے۔ (ملاحظہ: ہم معارف القرآن پا، سورۃ توبہ: ۷۴ حج ۳۸)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی شرعی ضابطہ کے مطابق سارے صحابہ کو ایک ہی کام میں نہیں لگایا بلکہ صحابہ کی مختلف صلاحیتوں اور فطری استعداد کے مطابق مختلف کاموں میں لگایا، بعض صحابہ کو سپہ سالار اور امیر لشکر بنایا، بعض کو قاضی اور مفتی بنایا کہ کسی علاقہ میں روانہ فرمایا، بعض صحابہ کو داعی اور مبلغ بنا کر اطراف کے دیہاتوں میں روانہ

فرمایا، صحابہ کی ایک جماعت کو دینی تعلیم و تربیت کے لیے صفحہ میں مقیم فرمایا، بہت سے آنے والے صحابہ اور وفود جو دین سیکھنے کی غرض سے آتے ان کو دین کی ضروری باتیں ارشاد فرمادیا کہ اپنے علاقہ میں اس پیغام کو عام کرو۔ (مسلم شریف)

حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروقؓ با وجود یہ کہ افضل الامت ہیں، لیکن بہت کم موقعوں میں ان حضرات شیخین کو امیر لشکر یا کسی علاقہ میں داعی و مبلغ بنا کر روانہ کیا، کیونکہ ان کو اس سے بڑے مقصد اور ضرورت کے لیے اپنے پاس روک رکھا تھا، اس کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت تھی وہ دوسروں میں نہیں تھی۔

اسی طرح آج بھی امت کے مختلف طبقات میں جس میں علماء و مشائخ اور مصنفوں و مولفین، مدرسین اہل علم اور ارباب افتاء و قضاء، نظماء مدارس، فارغ التحصیل طلبہ وغیرہ ہیں جو مختلف الاستعداد ہیں، ان میں بہت سے ایسے دینی ضروری کاموں کو انجام دے رہے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کاموں کو صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتے، ایسے لوگوں کے متعلق یہ امید لگانا اور کوشش کرنا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح دین کے ضروری کاموں کو جن کو وہ انجام دے رہے ہیں موقوف کر کے اس کام کے لیے وقت نکالیں۔ یہ سراسر حماقت اور جہالت ہے، اسی کوتاہی کی اصلاح کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحبؐ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کو پھر سے پڑھ لیجئے!

### اللہ کے راستہ میں نکلنے والوں کو یہ نیت بھی کرنا چاہئے

ایک خط میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا یہ فقرہ تھا کہ:

”مسلمان دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، تیسرا کوئی قسم نہیں، یا اللہ کے راستہ میں خود نکلنے والے ہوں یا نکلنے والوں کی مدد کرنے والے ہوں“۔

**فرمایا:** بہت خوب سمجھے ہیں، پھر فرمایا کہ نکلنے والوں کی مدد میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کو نکلنے پر آمادہ کرے، اور ان کو بتلائے کہ تمہارے نکلنے سے فلاں عالم کے

درس بخاری یا درس قرآن کا حرج نہ ہوگا تو تم کو بھی اس کے درس کا ثواب ملے گا، اس قسم کی نیتوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہئے اور ثواب کے راستے بتلانے چاہئیں۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب <sup>حص</sup>: ۲۷، ملفوظ: ۲۲)

**فائده:** مطلب یہ کہ حضرات علماء، اہل مدارس، حدیث و فقہ کا درس دینے والے، فتاویٰ لکھنے والے، دارالقضاۓ میں فیصلے کرنے والے ایسے علمی اور ضروری کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن کو عوام الناس اور دوسرے دیندار حضرات ہرگز نہیں کر سکتے، اگر کسی علاقہ میں تبلیغ کے لیے جانے کی شدید ضرورت ہو مثلاً ارتدا دزدہ علاقوں میں جماعتیں اور وفود کے بھیجنے کی ضرورت ہو تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب فرمائے ہیں کہ ایسے موقعوں پر بھی کوشش کرو کہ اہل علم اور قرآن و حدیث کا درس دینے والوں کا نقصان نہ ہو، کیونکہ اگر اہل علم، اہل درس، اہل تصنیف اپنے کاموں کو موقوف کر کے تبلیغ میں جائیں گے تو درس قرآن، درس حدیث، درس بخاری و مشکوٰۃ، درس فقہ اور تصنیفی و تالیفی و فتویٰ نویسی کے کام کا نقصان ہوگا، اس لیے حضرت فرمائے ہیں کہ سرپرستی تو علماء و فقهاء کی حاصل کرتے رہو، ان کی نگرانی میں کام کرتے رہو، ان سے دعا میں لیتے رہو، ان کو کارگزاری سناتے اور بتاتے رہو، ان کی ہدایتوں پر عمل کرتے رہو، اس کی کوشش مت کرو کہ وہ بھی جماعت میں نکلیں تبلیغ میں جائیں، کیونکہ ان کے جانے سے علمی و دینی نقصان ہوگا جس کی تلافی تم سے بھی نہ ہو سکے گی، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو مکلف نہ بنَا کرتم ہی جماعت میں نکلو، اور نیت یہ رکھو کہ اس ضرورت کو ہم پورا کرتے رہیں گے تو یہ اہل علم اصحاب درس حدیث و قرآن یکسوئی سے کام کرتے رہیں گے، اس نیت سے نکلو گے تو درس بخاری، درس فقہ، درس ہدایہ کے ثواب میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے، اس حسن نیت سے اللہ تعالیٰ تم کو بھی ان کے علمی کاموں کے ثواب میں شریک کر دے گا۔

مولانا محمد الیاس صاحب <sup>حص</sup> کی اس نصیحت کے پیش نظر اصحاب تبلیغ کو یہ خیال دل سے نکال دینا چاہئے کہ علمی و تحقیقی اور مدرسی کام کرنے والے حضرات جو اپنے کاموں

میں ایسے منہمک رہتے ہیں کہ ان کے لیے وقت نکالنا دشوار ہوتا ہے کہ وہ بھی جماعت میں نکلیں، اور روزانہ تم کو وقت دیں اور ان کے نہ نکلنے پر ان سے بدگمان ہونا، ان پر طعن کرنا اپنی ہلاکت کا سامان کرنا ہے۔

## علماء کی زیارت و خدمت کس نیت سے کرنا چاہئے

ایک بار فرمایا کہ: مسلمانوں کو علماء کی خدمت چار نیتوں سے کرنا چاہئے۔

(۱) اسلام کی جہت سے، چنانچہ محض اسلام کی وجہ سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کی زیارت کو جائے یعنی محض حبّة اللہ (ثواب کی نیت سے) ملاقات کرے، تو ستر ہزار فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر اور بازو بچھادیتے ہیں۔ توجہ مطلقاً ہر مسلمان کی زیارت میں یہ فضیلت ہے تو علماء کی زیارت میں بھی یہ فضیلت (بدرجہ اولیٰ) ضروری ہے۔

(۲) یہ کہ ان کے قلوب و اجسام حامل علومِ نبوت ہیں، اس جہت سے بھی وہ قابل تعظیم اور لائق خدمت ہیں۔

(۳) یہ کہ وہ ہمارے دینی کاموں کی نگرانی کرنے والے ہیں۔

(۴) ان کی ضروریات کے تقدّم کے لیے، کیونکہ اگر دوسرا مسلمان ان کی دینیوی ضرورتوں کا تقدّم کر کے ان ضرورتوں کو پورا کر دیں جن کو اہل اموال پورا کر سکتے ہیں تو علماء اپنی ضرورتوں میں وقت صرف کرنے سے بچ جائیں گے اور وہ وقت بھی خدمت علم و دین میں خرچ کریں گے، تو اہل اموال کو ان کے ان اعمال کا ثواب ملے گا۔ مگر عام مسلمانوں کو چاہئے کہ معتمد علماء کی تربیت اور نگرانی میں علماء کی خدمت کا فرض ادا کریں کیونکہ ان کو خود اس کا علم نہیں ہو سکتا کہ کون زیادہ مستحق امداد ہے کون کم (اور اگر کسی کو خود اپنے تقدّم سے اس کا علم ہو سکے تو وہ خود تقدّم کرے)۔

(ملفوظات مولانا محمد الیاس صاحب ص: ۵۲ ملفوظ نمبر: ۵۲)

**تمت بالخير**

## مولانا محمد الیاس صاحبؒ کے افادات پر مشتمل چند اہم رسائل

مرتب: محمد زید مظاہری ندوی استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

- (۱) دعوت و تبلیغ کی اہمیت، ضرورت، افادیت۔
- (۲) دعوت و تبلیغ کے اصول و آداب اور کام کرنے والوں کے لئے ضروری ہدایات
- (۳) اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لئے اہم ہدایات
- (۴) چھ نمبروں کی تفصیل و تشریح اور ان کی اہمیت
- (۵) دعوت و تبلیغ کے مختلف طریقے
- (۶) ارباب مدارس کے لئے چند اہم ہدایات
- (۷) حقوق علماء و مشائخ
- (۸) علم و ذکر سے متعلق اہم ہدایات
- (۹) تزکیہ و تصوف اور مشائخ سے متعلق اہم ہدایات
- (۱۰) مدارس و مکاتب اور جلسوں کے متعلق اہم ارشادات
- (۱۱) امت کے روئے و اغذیاء کے لئے اہم ہدایات